

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

این نسخہ کے لایجاب
الموسوم

شَرِيف

بَعِي

کلکتہ کے چلتا جادو کا ٹور۔!

نہر

حسب و ما نشخبات منشی و حاج الدین رضا اکبر آبادی

پیشہ۔ امین برادر اس ناشران کتب۔ P.B. آرام باغ روڈ کراچی
امین برادر اس P.B. 145 آرام باغ

۲۶
نسخہ
۶۶

۶ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خدا یا سزاوار بیشکی تویی ہمہستی اپنی بہتی تویی

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ و
ازواجہ المطہرین اما بعد احقر ابو البقا محمد تقی فدا کا ملی قادری ابن شاہ ..
مدار اللہ مرحوم شایقین کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ مجھے ابتداء ہوش
سے وظیفہ وظائف اور رعایتوں کا شوق رہا چنانچہ میرے جد شاہ محمد فیض اللہ
مرحوم نے جو استاد اس فن میں تھے اور اکثر موکلات کے عامل بھی تھے انھوں
نے کمال شوق اور جانفشانی سے اس فن کو بھی اس فن سے آگاہ کیا بعد
ان کی وفات نے سیامی کرنا ہوا احاطہ بینکال میں وارد ہوا یہاں بھی اس فن
کے ماہرین سے درس حاصل کیا اور بہت کچھ پایا اکثر مساتروں سے مقابلے
بھی ہوئے لیکن اللہ نے عزت رکھی اور انکو زیر کیا استادوں سے جو کچھ
پایا انکو لکھتا گیا۔ ایک دن سوچا کہ مرنا تو ضروری ہے کیوں نہ ایسا کام کر جاؤں
جو میرے بعد میری یادگار رہے چنانچہ ان نسخہ جات اور ترکیبوں کو جو
میری خود بارہا کی آزمودہ ہیں بصورت کتابت کرا لے کر کی جارت کرنا
ہوں تاکہ خلق اللہ کو نفع ہو اور وہ مجھ کو دعا خیر سے یاد کرے۔ چنانچہ
اس رسالہ کو چھپا اور ایک فائزہ پر تمام کیا۔ مقصد اول اوراد وظائف
عمل موکلات اس میں دو فصلیں ہیں فصل اول تضا حاجات
میں۔ فصل دوم وسعت زرق و دست غیب میں مقصد دوم

دستِ برحق و دستِ غیب میں مقصد دوم معشوقوں کی محبت
 مقصد سوم۔ برائے عداوت اور دشمنوں کی ہلاکت میں مقصد
 چہارم زبان بندی اور خواب بندی مقصد پنجم عمل کرنا موکلوں
 کا اور تابع بنانا ہزار دانہ سنگم و شیخ سدر و غیرہ کو برائے دفعِ آسیب
 و جن دہری اور چڑیل وغیرہ کے اس میں دو فصلیں ہیں مقصد ششم
 شامل اوپر دو فصلوں کے فصلِ اقل فالنامہ میں فصل دوم
 نسخہ جاتِ امساک میں۔ خاتمہ کتاب شعبہ جات میں۔
 ناظرین سے امید ہے کہ اگر مطابق وقت اور ستارہ سے باقاعدہ
 لکھیں گے تو ضرور انشاء اللہ تعالیٰ اپنی مراد پائیں گے کیونکہ ہر ستارہ
 کی خاصیت اور تاثیر جداگانہ ہے پس عامل کو چاہیے کہ وقت اور ستارہ
 کا لحاظ ضرور رکھے تاکہ اسکا عمل پورا ہو اس لئے واضح ہو کہ پہلے دن اور
 کی کل ساعتوں کا بیان کیا جانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ہر مخلوق میں
 جدا جدا تاثیریں بخشی ہیں اور وہ تاثیرات ہمیشہ ظہور میں آتی ہیں جب
 کوئی ستارہ کسی وقت کا حاکم ہوتا ہے اپنی ایک تاثیر دکھاتا ہے اسی
 سببے عالموں نے از روئے ان کے خواص کے عمل پڑھنا اور لکھنا اختیار کیا
 ہے لہذا جدولِ ساعات کہ جس دن اور رات کی ساعات کی کیفیت
 بہ آسانی معلوم ہوتی ہے کتب معتبرہ سے صحت کے ساتھ نقل کیا ہے
 تاکہ شائقین کو احتیاج دوسری کتابوں کی نہ ہو اور وہ ساعات کے
 بابت اسی جدول سے سب کچھ معلوم کر سکیں جدولِ ساعات کے صفحہ پر ہے

Gift for
 Facebook
 @Free
 amliyaat
 books...pdf
 By Naveed
 hassan

ستاروں کے سعد اور نحس اور اوقات میں تعویذ

دیگرہ لکھنے کا بیان سعد ۱

جاننا چاہیے کہ مشتری سعد اکبر ہے اس ساعت میں تعویذِ محبت اور حاضر ہونے غائب اور دفع بیماری کا لکھا جاوے اور بخور اسکا عود اور مشک اور کافور اور جودانہ و صندل اور شکر ہے۔ زہرہ سعد اصغر ہے اس کی ساعت میں تعویذِ محبت اور زبان بندی و خواب بندی لکھنا چاہیے اور بخور اسکا عود و صندل و مشک اصندل سفید کافور اور اسپند ہے۔ عطارد مشترک ہے اسکی ساعت میں تعویذِ محبت اور خواب بندی اور زبان بندی و تیغ بندی و غیرہ لکھنا چاہیے اور بخور اس کا عود اور کافور و صندل سترخ و قمر نفل ہے۔ شمس سعد ہے اس کی ساعت میں بھی تعویذِ محبت اور شفائے امراض لکھتے ہیں اور بخور اسکا عود اور مشک اور دار چینی ہے۔ قمر کو بھی سعد کہتے ہیں اس کی ساعت میں تعویذِ محبت اور اعلیٰ اور شفائے امراض لکھتے ہیں اور بخور اس کا عود کافور شہد و غیرہ ہے۔ زحل نحس اکبر ہے اس ساعت میں تعویذِ ہلاکی اعدا لکھنا چاہیے اور بخور اس کا عود اور لوہان اور وقت لکھنے تعویذ اور جلائے فلایتہ کے پیل گرد اور رال بھی جلائے۔ مریخ نحس اصغر ہے اس کی ساعت میں تعویذِ عداوت اور ہلاکی دشمن کے لئے لکھے اور بخور اس کا عود لوہان اور یہ بخورات بحکم ستارہ معشوق کے کرے اور اگر طالب و مطلوب دونوں کا ستارہ ایک ہے تو ایک ہی بخور جلاوے اور بخور بغض رلی اور

Gift for Facebook k@Free amliyaat

books... pdf By Naveed hassan

بارم
۱۲
ساعت
نما
نہرہ
نفل
علاء
شمس
نسیک
۲
بیت
۱۰
جلی
عطاء
۳
آنی

راہ ہے اور بخوردھونی کو کہتے ہیں کہ جو بوقت بکھنے لغویہ خواہ پڑھنے دعا کے
 جلا تا چاہیے اور سفر السعادت و جبل الہدی میں حضرت ابن عیاش سے
 منقول ہے کہ ہر مہینے میں سات دن بخش ہوتے ہیں یعنی تین پانچ
 تیرہ اور سولہ اکیس، چوبیس اور پچیس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 روایت ہے کہ عامل ان دنوں میں کوئی کام جدید نہ کرے اگر کرے گا تو کام
 انجام کو نہ پہنچے گا۔ دور عقرب ہر مہینے میں اڑھائی روز ہوتا ہے بموجب
 ان اشعار کے شمار کرنا چاہیے :-

عقرب اندر ہر دو نیم روز آرد گراں	ہر کہ کار تو کنی یعنی درد و خطر و دیاں
یازدہ اندر اساطیر اور سہشت اندر دن است	شش پہ بھلاؤ سہ بہ آسن بیک کلک اٹھان
بست و سہشت آمد بہ آگن و شش آمد تو	بست سہ در گھ آمد بست و یک پھاگن بدلا

ہیزدہ در حیت بہ شمر شانزدہ بیساکہ گیر
ہیزدہ در حدیث گیر و این معنی دانی بدلاں

قمر در عقرب یہ نہایت خراب ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔

مقصد اول میں فصلیں ہیں

کوئی حاجت پیش آئے لازم ہے کہ اس نقش کو تیس عدد روز ایک مہینہ تک ایک وقت مقررہ پر لکھ کر دریاں دریا میں ڈال دیا کرے پشت نقش

۳	۲	۹	۱۱	۱۰	۵
۴	۳	۹	۹۹	۹۹۹	۹
۵	۴	۸	۸	۸	۸

پر اپنا مطلب
 بدیاح
 طاہرہ پر
 کے ہر روز
 برآمد عام
 اور شام
 خوشبو
 عود اور
 اور ہر کہ
 پار قل
 پڑھے
 مست
 روز میں
 تعالیٰ
 ہے
 بقصد
 آدھا
 دے
 اول

پر اپنا مطلب کہہ دیا کہ۔ ایضاً۔ ہر وقت پیش آئے حاجت کے یکا
 بدیاح العجائب بالخیر یا بدیاح ہارۃ شومرتہ بارہ روز تک بستر
 طاہرہ پر بیٹھ کر جمع قلب سے پڑھے اور اسی جگہ سو رہے اور قبل پڑھنے
 کے ہر روز نہائے اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کرے حصول مدعا اور
 برآمد حاجات کیلئے مجرب ہے۔ ایضاً۔ اگر کوئی جمعرات کو روزہ رکھے
 اور شام کے وقت غسل کرے اور لنگی ایک پاٹ کی پہنے اور بدن میں
 خوشبو اور عطر خوب لگا کر ایک حجرہ میں تنہا بیٹھے اور وقت پڑھنے کے
 عود اور صندل و لوبان جلاتا جاوے پہلے دو رکعت نماز دو گانہ ادا کرے
 اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے اذان لزلت ارض و شس بار قل یا چار
 بار قل ہو اللہ گیارہ بار پڑھے پھر بعد سلام کے ایک ہزار چالیس بار اس دعا کو
 پڑھے اور ثواب دو گانہ حضرت شیخ المشائخ الاولیاء شیخ شہاب الدین سلیم
 مست فیل سفید قلندر کو دیوے اور مراد اپنے دل میں سوچ لیوے ایک
 روز میں مطلب پورا ہووے ایسی ہی مہم عظیم ہو تو تین روز میں ضرور النشاء
 تعالیٰ مطلب پورا ہوگا ورنہ ایک روز میں مطلب پورا ہوگا اور وہ دعا یہ
 ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰ اَبَدِیْ لِحِ الْعَجَّائِبِ بِاَلْخَیْرِ سَتَقْبَلُ عَلَیْنَا
 بِقَضِیْکَ یٰ اَعَزِّیْزُ کُورِا ہونے مطلب کے آدھا سیر چادل آدھا سیر گھی و
 آدھا سیر شکر سفید اور آدھا سیر وہی ملا کر پکاوے اور فاتحہ شیخ مذکور کا
 دے کر صوفیوں کو کھلاوے۔ ایضاً برائے ہر مہم اسم یاقادوس
 اول و آخر درود شریف بالتسمیہ روز اول ایک ہزار بار روز دوم دو ہزار

کراچی
 معنی دعا
 شمس
 پاپا
 جب سے
 گاتو کام
 بموجب
 دیاں
 کلک اتھال
 ساکن بل
 ہے۔
 ضلع
 سی کو
 د
 ۹
 ماہور

بار روز سوم تین ہزار بار روز چہارم چار ہزار بار روز پنجم پانچ ہزار بار روز
 کہ ہر روز ایک ہزار پڑھانا جاوے یا ہویں روز بارہ ہزار بار۔ انشاء اللہ تعالیٰ
 بارہ روز کے اندر جو مطلب ہوگا پورا ہوگا اور اگر اس درمیان میں مطلب
 نہ پورا ہوا تو پھر دو روز ناغہ دے کر شروع کرے اس چلہ میں ضرور ضرور
 انشاء اللہ تعالیٰ مطلب حاصل ہوگا یہ مجرب اور آزمودہ ہے اور اس عمل
 کی میر سید لطف علی صاحب فقیر کو اجازت ملی ہے اور دو رکعت نماز دو گانہ
 بھی بجلاوے۔ خوشبو بدن میں لگاوے اور خالی حجرہ میں تنہا بیٹھ کر عمل شروع
 کرے اور رجوع قلب پڑھے۔ **ایضاً** روز شنبہ **یا قاضی الحاجات**
یکشنبه یا مفتح الابواب۔ و شنبہ یا سبب الاسباب۔ شنبہ یا حی یا قیوم
پر حمتک یا مستغیث۔ چہار شنبہ یا بدیع السموات والارض۔ پنجشنبه یا
ذوالجلال والاکرام۔ روز جمعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
من الظالمین پڑھے۔ ایضاً۔ نماز پنج وقتی کے بعد چوبیس مرتبہ
سورہ اذا جاء جس نیت سے پڑھے گا بہت جلد مطلب اس کا پورا ہوگا
باذن اللہ تعالیٰ ایضاً۔ اس

۷۸۶

۲۱	۱۶	۲۳
۲۲	۲۰	۱۸
۱۷	۲۴	۱۹

یوں دیکھو

یوں دیکھو

تہذیب

تہذیب

نقش کو لکھ کر سورہ نقش روز۔
 آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں
 ڈالے جس مطلب کے واسطے کرے گا
 اللہ تعالیٰ پورا کرے گا نقش یہ ہے۔
ایضاً۔ جب کسی کو کوئی سخت مشکل پیش آوے جو نیت کہ تمہارا

ابن برکات
 اس نقشہ
 انشاء اللہ
 زمین پاک
 اور مشا
 بلخی رح
 کے آئیے
 میت اد
 تعالیٰ
 امام حج
 سوال
 سے جو
 اس کا
 ہیں
 ہزار
 سوا
 وای
 طرف
 مل
 سو

۸	۱	۶	۶	۱	۸
۳	۵	۷	۷	۵	۳
۴	۹	۲	۲	۹	۴

اس نقش کو کھسے اور مٹا دے بہت جلد
انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ہوگی۔
زمین پاک یا تختہ پاک پر نقش بکھا
اور مٹا یا جلے گا اور حضرت سلطان العالی

یعنی رحمۃ اللہ علیہ نقش یہ ہے۔ **ایضاً**۔ بروقت پیش آنے عامات
کے آیہ کریمہ **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِحَقِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِيْنَ** بعد نماز عشاء، شتر بار پڑھے اور ہر بار اپنا مطلب کہے انشاء اللہ
تعالیٰ چالیس روز کے درمیان مطلب حاصل ہوگا اور لکھا ہے کہ حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس آیت کے وسیلے سے جو
سوال کرے پادے اور جو دعا کرے قبول ہوگی کونجھ کو تعجب آتا ہے اس شخص
سے جو بواسطہ اس کے دعا کرے اور قبول نہ ہو اور کل مشائخ رحمہم اللہ کا
اس کی عتدائے اثر اور عدم تخلف پر اجماع ہے اور اس کے ختم کے بہت سے طریقے
ہیں آسان و ڈھیلے ہیں ایک یہ کہ بارہ دن تک بہ نیت حصول مطلب بارہ
ہزار بار پڑھے اور اول و آخر چند مرتبہ درود شریف اور دو سہا طریقے یہ ہے کہ
سوال کا مرتبہ چالیس روز میں پڑھے۔ **ایضاً**۔ جو شخص جس مطلب کے
واسطے سورہ یسین کو پڑھے گا خداوند کریم اس کی حاجت کو پھرائے گا۔
طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک جلسہ میں ایک یا تین یا پانچ یا سات آدمی باہم
مل کر سورہ یسین بہتر بار مجلوں نیت مسجد میں پڑھیں اور قبل شروع۔
سورہ مذکورہ کے سو مرتبہ درود شریف پڑھیں یہ عمل اکثر مشائخین سے

یا غرض
شاء اللہ تعالیٰ
مطلب
مزدور ضرور
اس عمل
ازدگانہ
عمل شروع
حاجات
یا قیوم
نیت یا
کنت
مرتبہ
ہوگا
عمل

سے منقول ہے اور نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ **ایضاً**۔ نقش سورۃ فاتحہ واسطے صبح طہارت کے ۲۳۲ نقش ہر روز لکھ کر اور اٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈالے مدعا حاصل ہوگا اور شفا کے مرض کے لئے چینی کی کاپی پر لکھ کر مریض کو پلاوے شفا ہوگی باذن اللہ تعالیٰ نقوش یہ ہیں۔

۷۸۶

۷۸۶

۵۵۲۶	۵۵۲۵	۵۵۲۱	۵۵۲۵	۸	۲۶۶۳	۲۶۶۸	۱
۵۵۲۷	۵۵۲۶	۵۵۲۱	۵۵۲۶	۲۶۶۷	۲	۷	۲۶۶۵
۵۵۲۷	۵۵۵۰	۵۵۲۳	۵۵۲۰	۳	۲۶۸۰	۲۶۶۲	۶
۵۵۲۳	۵۵۳۹	۵۵۲۶	۵۵۲۹	۲۶۶۳	۵	۲	۲۶۶۹

روایت ہے مالک بن لوی سے اور انھوں نے عبد اللہ بن مرید سے کہنا حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کو کہتا تھا **اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَّلَمْ یُولَدْ وَّلَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدًا** آنحضرت نے فرمایا کہ سوال کیا تو نے خدا نے تعالیٰ سے ساتھ ایسے نام کے جو شخص ساتھ اس نام کے اللہ سے کوئی چیز طلب کرنا ہے وہ عطا کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے قبول فرماتا ہے اور دوسری حدیث میں یوں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ سوال کیا تو نے خدا نے تعالیٰ سے ساتھ اسم اعظم کے اور صاحب درالمنظر نے فرمایا ہے کہ جس دعا میں **اللَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ صَمَدٌ** ہو وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ **ایضاً**۔ جس شخص کے

کے تئیں کوئی غم یا الم حادث ہو یا کوئی سختی پیش آوے امورات فریاض یا
 دین میں چاہے کہ شب جمعہ کو طہارت کامل کرے اور سجدہ آخر نماز وتر میں کہے
 يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ اسْتَعِيْثُ يَا اللَّهُ اور اللہ
 جل شانہ سے حاجت چاہے اور ان امور سے پرہیز کرے یعنی ہلاکی سلم یا
 مضریت مومن میں سعی نہ کرے بدیں نظر کی تاثیر اس دعا کی خیر و شر میں بہت
 ہے۔ ایضاً۔ مقابل سے مروی ہے کہ جس شخص کے تئیں کوئی حاجت ہو
 چاہیے کہ بعد فریضہ صبح کے قبل اس کے کہ مصلے سے اٹھے اور کسی سے بات
 نہ کرے سو بار اس دعا کو پڑھے البتہ مستجاب ہو دعایہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ يَا قَدِیْمُ يَا كَرِیْمُ
 يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اَحَدُ يَا اَحَدُ يَا صَدُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْاِكْرَامِ اور مقابل نے کہا ہے کہ میں نے چالیس برس ان اسماء کو دیکھا
 کہ جن سے حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے یہاں تک کہ پایا ان اسماء
 کو۔ نزدیک بعض محققان علماء کے اور وہ اسماء یہ ہیں يَا قَدِیْمُ يَا قَيُّوْمُ
 يَا اَحَدُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اَحَدُ يَا صَدُّ اور صاحب شمس المعارف نے
 بھی فرمایا ہے کہ یہ سات اسماء بزرگوار حق سبحانہ تعالیٰ کے ہیں کہ حضرت
 عیسیٰ ساتھ ان اسموں کے مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ایضاً صاحب التظیم
 نے لکھا ہے کہ اسماء بزرگوار یَلْحَنَانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِیْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ واسطے اجابت دعا کے نہایت مجرب ہے ایضاً
 فصل دوسری بابتہ زیاتی رزق و غنا: جو کوئی تنگی محبت

میں گرفتار ہو اس کو لازم ہے کہ سورہ منزل شریف بعد اداۓ زکوٰۃ کے
 ۱۴ بار بعد نماز عصر کے لب وریا خواہ لب حوض بلطیم کرے **اللّٰہُ اللّٰہُ بہت کھڑے**
 عرصہ میں تو نگر اور مالدار ہو جاوے اور جس وقت وہ **وَاقُوْمٌ قَبِيْلًا** پر پہنچے
 تین بار تکرار کرے اور اپنا مطلب اظہار کرے درود شریف اقل د آئینہ
 گیارہ گیارہ بار ایضاً منقول ہے کہ فرمایا آنحضرت نے کہ جو کوئی تنگی رزق
 میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ گوشہ تنہائی میں ایک زانو بلطیم کر بارہ ہزار
 بار **يَا قُوْمٌ يَا غَنِيُّ يَا غَنِيُّ يَا وَفِيٌّ** بارہ روز تک ایک جلسہ میں پڑھے
 انشاء اللہ تو نگر ہو جائیگا ایضاً اگر اسم **يَا وَقَّابُ** کو بعد زکوٰۃ کے کرے...
 چودہ لاکھ زکوٰۃ اس کی ہے بعد اس کے ایک ہزار چار سو چالیس مرتبہ روز

۴۸۶

و	۵	ا	ب
ب	ا	۵	و
۵	و	ب	ا
ا	ب	و	۵

ساختہ طہارت کامل کے پڑھے اور
 چودہ لاکھ نقش بکھرا آٹے میں گولیاں
 بنا کر دریا میں ڈال دیا کرے اور یہ
 شروع بروز جمعہ غزہ ہو یا پھر
 چودھویں تاریخ جمعہ پڑھے اس

روز سے شروع کرے تازلیست کسی کا محتاج نہ رہے نقش یہ ہے
 دیگر۔ واسطے فتوحات کے چاہیے کہ ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ
 کے دن شروع کرے اور بعد پر مہینے کے چہار شنبہ کے دن دریا یا حوض
 میں کھڑے ہو کر تراسی بار **يَا بَاسِطُ** پڑھے انشاء اللہ کامیاب ہو یہ
 طریقہ سہل ہے دیگر جو کوئی اس نقش کو لکھا کرے اس کے

۷۸۶

۳۷	۳۹	۳۷
۳۶	۳۳	۳۱
۳۰	۳۸	۳۲

ایک مرتبہ اس نقش معظم کو دیکھ
 نے گارب العالمین آگ دوزخ کی
 اس پر حرام کر دے گا اور جو لوئی
 بعد نماز صبح اس نقش معظم کو

دیکھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہ رہے گا اور وہ نقش یہ ہے..... ↑

۵	۵
۵	۵

دیکھو۔ روایت ہے کہ جو کوئی..
 ایک مرتبہ صبح ان چہار خالوں کے
 روز نگاہ بھر کر دیکھ لیا کرے رزق
 اور روزی زیادہ ہوگی اور سال

۵	۵	۵	۵
---	---	---	---

میں برکت ہوگی اور وہ یہ ہے..... ↑ دیکھو۔ واسطے فتوحات غیب و

کشائش رزق کے ان اسماء کو موافق اعداد حروف اسماء چالیس روز تک
 پڑھے انشاء اللہ فتوحات بے انتہا ہوگی **يَا حَبْرَتَيْلُ يَا دُرَّ دَائِلُ يَا رَفَائِلُ**
يَا هَكْفَيْلُ يَا بَدَّوْسُ دیکھو حضرت امیر المؤمنین **عمر** نے فرمایا کہ آنحضرت
 نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اس نقش کو با وضو دیکھے گا گناہ ماں باپ
 کے اس کے رب العالمین بخشدے اور وہ دنیا میں محتاج نہ رہے گا روزی
 اس کی اللہ جل شانہ غیب سے پہنچا دے گا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لِحْنَانَ يَلْمَنَاتُ
يَا دِيَاكُ يَا سُبْحَانَاتُ يَا بُرْهَانَاتُ يَا سُلْطَانَاتُ يَا غَفُوْرًا يَا غَفُوْرًا
يَا مُسْتَعْلَكَ مَرُوْحَ مَرُوْحَ مَرُوْحَ مَرُوْحَ نقش الکا صفر دیکھے

ابن برادر س



دیکھو۔
 اٹھارہ ہزار
 ہر روز بعد
 بازار میں
 ایک روپیہ
 حاجات اور
 چہار شنبہ
 کر اٹھارہ
 تین سو یا
 اور نقش
 جو کچھ خیر
 کے کسی
 دست غیب
 صبح طہا
 بات نہ
 پہلے پڑھے



۷۸۶

۵	۱۲	۱
۲	۶	۱۰
۱۱		۷

دیگر۔ نقش دوپایہ ہے زکوة
 اٹھارہ ہزار بعد زکوة ایک نقش
 ہر روز بعد نماز عصر یا تھ میں لے کر
 بازار میں کھڑا ہو ایک شخص آکر

ایک روپیہ اس کے ہاتھ میں دے کر چلا جاوے گا۔ ایضاً۔ برائے کشتہ و تمام
 حاجات اور مقہوری دشمن اور دشمنوں کی آحضرت چاہیے کہ شروع چاندیہ روز

۷۸۶

۷	۲	۹
۸	۶	۴
۳	۱۰	۵

چہار شنبہ ایک گوشہ میں بیٹھ
 کر اٹھارہ نقش لکھے بعد اس کے
 تین سو بار یا حی یا قیوم پڑھے
 اور نقش کو آب رواں میں ڈالے

جو کچھ خرچ روزمرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا وقت لکھے اور پڑھنے
 کے کسی سے بات نہ کرے اور اس بھید سے کسی کو آگاہ نہ کرے دیگر برائے
 دست غیب و فتوحات ہزار مرتبہ ہر روز ساتھ طہارت کامل کے بعد نماز
 صبح طہارت کامل کے ساتھ بعد نماز قبل اس کے کہ مصلے سے اٹھے اور کسی سے
 بات نہ کرے اس کو پڑھے مگر اس کا بھی مزد و خیال رکھے کہ سورج نکلنے سے
 پہلے پڑھ کر فارغ ہو جایا کرے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِیَارَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

يَحْيٰى يَا عِزُّرَآئِيْلُ يَا بُدُوْحُ يَا هُوَ - وَيَكْرِوْ - جوائیس مرتبہ بعد
 نماز صبح یا بعد از عشاء بلا ناغہ مداومت کرے انشاء اللہ تو دیگر سوھاے
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا بَاسِطَ الْاَيْدِيْ بَدِئِجِ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّقْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ہر ایک
 دستِ غیب سات ہزار مرتبہ ہر روز پڑھے جس وقت فارغ ہو۔۔
 اپنے مصلے کو اٹھاوے سات روپیہ نیچے مصلے کے ملیں گے اسے روز بخرچ
 کر ڈالے ایک پیسہ باقی نہ رکھے اور یہ راز کسی سے نہ کہے ورنہ پھر بند ہو جاوے
 گا اما مکان و زبان شرط ہے اور پڑھ کرے۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مُحَمَّدٌ
 وَ مُحَمَّدٌ اَحْمَدٌ مَنْ لَّهٗ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ سُبْحٰنَ عَنبِى الْفَاعِلِہِ
 يَحْيٰى يَا بُدُوْحُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

مَقْصِدُ دُوْسَرِ اَبْرَآءِ بُهْتِ حُجُوْبِ

تبلیغ ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ الحب کی ترکیبیں حرام کے واسطے
 ہرگز نہ گزرنے کریں بلکہ اس سے گریز کریں ہاں اگر میاں بیوی میں نفاق ہو
 یہ یہ نیت ہو کہ اس سے نکاح کر لیں گے حرام کاری نہ کریں گے تو عمل الحب
 ضررہ کریں کیوں کہ اس رسالہ میں جس قدر ترکیبیں درج کی گئی ہیں سب
 آرمودہ اور مجرب ہیں۔ موافق قاعدے کے اگر کریں گے انشاء اللہ
 تعالیٰ ضرور اپنے مقاصد دلی کو حاصل کریں گے اعتقاد را سخ ہونا چاہیے

ابن برادرس
 دیگر
 کے ساتھ
 نقش کو
 کو گھوں
 فرط مجتہد
 طالب کے
 مجرب ہے
 دیگر
 کسی
 توجہ
 دونوں
 دیگر
 نہ ہو
 گلاب
 پر بھی
 لا
 علی
 لیس
 کو

۱	۳	۱۵	۱۰۱	۱۱	۶	۴	دیگر۔ واسطے محبت کے ساعت میں اس نقش کو لکھے اور معشوق کو گھول کر پلاؤ معشوق فرط محبت سے بیقرار ہو کر طالب کے پاس حاضر ہوگا۔
۱۱	۸	۱۵	۱۲	۵	۷	۹	
۶	۵	۹۸	۱۱۱	۳	اک	۷	
ط	ط	۱۱۱	۵۱	۵	۷	۵۳	
مط	مط	مط	مط	مط	ولا	۱۲	

مغرب ہے اسم طالب مطلوب اور دونوں کی ماں کا نام بھی لکھنا ضروری ہے۔
 دیگر۔ درسیان زن و شوہر کے اگر کسی وجہ سے ناموافقیت پیدا ہو گئی ہو 3


س	دو	سرہ	رو
ط	ع	ع	رو
ح	ع	ح	ح

تو حسب قاعدہ اس نقش کو لکھے اور دونوں کو گھول کر پلاوے نقش یہ ہے

دیگر۔ واسطے محبت اور الفت کے اگر چاہے کہ ایک دوسرے سے تازلیت مجرا نہ ہوں تو جمیرات و جہتہ کو بروقت نکلنے آفتاب کے شہد فالص و زعفران اور

کتاب اس تعویذ کو لکھ کر اپنے دائرے یا حجر میں باندھے اگر معشوق تنوگوس پر بھی ہوگا تو حاضر ہوگا محبت ہے الْقِيَوْمَ بِحَقِّ كَهَيْعَتِهَا مَعْشِقَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللَّهُ عَجَلْ عَجَلْ فَلَاا بنت فلان علی حب فلان بنت فلان وہ ہنہ وہ ہنہ وہ ہنہ وہ ہنہ وہ ہنہ وہ ہنہ
 لیسہ دیگر۔ اس آیت متبرکہ کو بنگر پان پر لکھ کر مع نام چہا کس مطلوب کو کھلاوے فوراً بیقرار ہو جاوے۔ نَسِيكَفِيكَهِنَّ اللَّهُ وَهُوَ الرَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

دیگر۔ اگر چاہے کہ اپنے عشق میں دیوانہ کرے چالیس روز تک کسی
 ایس باریا کو لیمہ الحب قلات بن فلاں و ردل فلاں بنت فلاں
 بن فلاں کے بجائے اپنی ماں کا نام اور بنت فلاں کی جگہ مطلوب کی ماں
 کا نام ایسے۔ پڑھے منہ طرف خانہ مجرب کے ہو یہ عمل عروج ماہ میں نوحیدی
 جمعرات سے کرے دیگر کوئی اس نقش مکرم کو اپنے پاس رکھے عزیز خلاق ہو
 اگر ٹوپی میں رکھے زبان حاسدوں و بدگوئیوں اور غمازوں کی بند ہو اور مگر
 رکھے کتنا ہی طے ماندہ نہ ہو اور اگر بازو پر باندھے کوئی اس کی بربری نہ کرے
 اور اگر انگوٹھی کے نیکنہ پر کندہ کرے کہ اپنے تمام آفتوں سے امن میں ہو وہ یہ ہے



دیگر۔ اگر کوئی کسی کو اپنے عشق میں دیوانہ کرنا چاہے تو اس کو چالیس روز
 مطلوب کے سر پائے کی خاک جہاں کہ وہ سوتا ہے حاصل کرے دن اتوار کا ہو
 اور پھر اس خاک پر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کرے اور اپنے سر پائے
 اس خاک کو رکھ کر سوئے مطلوب بیقرار ہو کر حاضر ہوگا اور وہ یہ ہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ
 دیگر۔ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے مطلوب بیقرار ہو کر حاضر
 آئے گا۔ تعویذ صفحہ نمبر ۱۹ پر ملاحظہ کرے۔

امین برادر
 ۳
 العجل
 دیگر
 لوٹنی خواہ
 ہو اور وہ
 دیگر
 اگر وہ اس
 رہے اور
 تابع اور
 دیگر
 داپنے
 بائیں
 دیگر
 مطلوب
 اس کو
 دیگر

نکلے آفتاب کے یہ نقش لکھ کر پتھر کے نیچے ربا دیوے محبوب بیقرار ہو کر صبح
آدے مجرب اور آزموہ ہے اور وہ یہ ہے۔

۱۱۱ ط ۲۲ ۱۱۱ ۵ ۱۱۱ ل ۹۷۹ ۱۱۱

الحب فلاں بنت فلاں در دل فلاں بنت فلاں پیدا شود

دیگر :- واسطے احضار معشوق کے اگر کوئی چاہے کہ میرا معشوق مجھ
سے چھوٹ کر علیحدہ کہیں نہ جاوے تو چاہیے کہ اس کے سر کے بال کو لے کر
اکتالیس بار اس کلمہ کو پڑھ کر دم کرے اور اس کو بھاری پتھر کے نیچے ربا دیوے
تا کہ اس پتھر کو کوئی نہ ہٹاوے اور معشوق کا گذر وہاں نہ ہو پھر وہ اس
کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاسکتا اور وہ یہ ہے۔

پسما السربط مسج مسج مسج سلمو حیلہ ورو مال
دیگر :- اگر کسی کو اپنے معشوق میں دیوانہ کرنا چاہے اگرچہ وہ تنہا کو س پر بھی
کیوں نہ ہو تو برزیکٹہ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے خواہ چرخے میں
گھمائے مجرب المجرّب ہے اور وہ یہ ہے۔

	۵۱	۱۹
	ع	۱۱۹
	ع	۱۹

دیگر :- واسطے محبت طالب و مطلوب اس تعویذ کو ساتھ مشک و زعفران
اور گلاب کے لکھے اور دریا میں ڈالے اگر ہزار کوں پر معشوق ہو گا بے قرار ہو کر اپنے
طالب کے پاس آوے گا ایک ہفتہ تک روزانہ بلاناغہ وقت کی پابندی کا
لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایک تعویذ نذر کرنا ہے تعویذ صوفی نمبر ۲۱ پر دیکھے

امین برادرین کراچی
۱۱۱ ۹۷۹ ۱۱۱
۱۱۱
دیگر :- اگر
چھوڑ کر بھاگ
ہو اس نقش
میں شکاوے
دیگر :- اگر
تعویذ کو لکھے
اور حاکم اس
دیگر :- اگر
اب ب
الحب فلاں
دیگر :-
ع ع ع
دیگر :-
لکھ کر

			ط	س

دیگر۔ برائے مجتہد اس فلیتہ کو لکھ کر چار ع میاں جلاوے مطلوب
 بیچارہ ہو کر حاضر آئے۔ الحبال بنت فلاں در دل فلاں بنت فلاں پیدا
 شود و حاضر آیا۔ ع ۵

۷۸۶

ص	۷	هد	دلرب	بر
ع	رو	ع	ع	ط
ط	درم	دود	ط	ع

دیگر۔ اگر میاں بیوی میں موافقت
 نہ ہو تو اس تعویذ کو مشک اور زعفران
 سے لکھ کر پانی میں دھو کر دونوں کو
 پلا دیں میل جول ہو جاویگا۔

۷۸۶

۸	۲۶	۲۹	۱
۲۸	۲	۷	۲۷
۳	۳۱	۲۴	۶
۲۵	۵	۴	۳۰

دیگر۔ جو عورت اپنے شوہر کے
 گھر سے بھاگ جاتی ہو اس نقش
 کو لکھے ایک نقش اس کے گلے میں
 پاندھے اور دوسرا گھول کر پلاؤ جو
 عادت بھاگنے کی جاتی رہے گی۔

جہت الحباب اوپر شانہ گو سفند کے لکھے اور پشت شانہ پر دونوں کے
 پندرو مادہ کا نام لکھے اور ہوا میں ٹسکا دیوے معشوق بہت جلد حاضر آویگا
 اور وہ یہ ہے۔
 (پیامالینوس)

ابن برادر
 دیگر۔
 لکھے اور
 مطلوب
 پیدا
 حاضر
 دیگر۔
 سفید
 لکھے اور
 دیگر۔
 گیارہ
 دو
 فلاں
 آت
 داسے

ویگرو۔ برائے محبت اس مطلوب کے جو مزاج پلوی رکھتا ہو اس نقش کو

لکھے اور شربت میں دھو کر پلاوے حفظ ۶۸۶

۱۱	۶	۱۳
۱۲	۱۰	۸
۷	۱۴	۹

مطلوب کے دل میں بے انتہا الفت

پیدا ہو اور بیقرار ہو طالب کے پاس

حاضر ہو نقش و تصویر یہ ہے۔

۹۶ ح ۵۵۱۶ ح ۵ ۱۱ ۱۲ ۲ ط ط ع ۳۲ ع ۹۶

۵۵ ح ۵۵۱۶ ح ۵ ۱۱ ۱۲ ۲ ط ط ع ۳۲ ع ۹۶

ویگرو۔ اگر معشوق مزاج خالی رکھتا ہو یہ طلسم اوپر کاغذ کے خون کبوتر

سفید سے بروز پنجشنبہ مع طالب و مطلوب مع دونوں کی ماں کے نام کے

لکھے اور نیچے مکان محبوب کے دفن کرے معشوق بیقرار ہو کر حاضر ہوگا وہ یہ ہے

ص ع و لا لا ۱۱ ۱۱ ۸

ویگرو۔ برائے حب و تخیل خوب شروع مہینے میں آدھی رات کو وضو کر کے گیارہ

گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف بعد اس کے بہ نیت مسخر مطلوب ایک ہزار

دو رقیب کے قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اَوْ اَخْرَسْتُهَا فِي لَيْلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ لَيْلٍ اِنَّهَا لَمِنْ اُمَّةٍ شَقِيْقَةٍ

فلاں بافلاں۔ ایضاً۔ واسطے تخیل خلاق بعد ہر نماز پنجگانہ کے سو

مرتبہ پڑھا کرے جو دعوات عالم خوب ہوگی اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اِسْتَعِيْنُكَ فَاغْنِنِىْ بِرَحْمَتِكَ

اِنَّ ذٰلِكَ اَدْوٰى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ نَجَسٍ مَّلَاوَدٍ۔ دیگر

واسطے حب کے محبت الحریب، اوپر کپڑے تحریر کے لکھ کر اپنے پاس رکھے لیکن کاپی

حرام کے ذکر اس کو عجیبان حب انسان کہتے ہیں اور ایک لکھ کر نیچے

مطلوب پیدا ہو

ص ع ط

۸ ۲۸ ۲

س کے آدیگا

و یگان کے کرے با دم ا ح ا ص ل ل ه
 ملخ سلخ علم طو حوا ص ل ل ه
 ص ل ل ه
 ص ل ل ه
 بنام بر چا رکس

عمالا فی العجل العجل العجل الوحا الوحا الوحا الساعت الساعت الساعت
 دیگر۔ واسطے جب اگر شب ادینہ میں اکیس بار اوپر شیرینی کے پڑھ کر مطلوب
 کو کھلا دے دل و جان سے عاشق ہو۔ اگر سینچر کی رات کو بچوں کے اوپر کچھ
 مرتبہ پڑھ کر محبوب کو سنگھارے مثل بلبل کے شیا ایا دے اگر اتوار کی رات کو
 اوپر سات دانہ پیل گرد کے سات مرتبہ پڑھ کر گرمی حدت آفتاب کی دمنیں پہنچی
 معشوق پر دانہ وار شمار ہو اور اگر لونگ پر پچیس بار پڑھ کر مطلوب کو کھلا دے
 مطلوب جاں نثار کرے گا اور اگر مطلوب کے کپڑے پر سات بار پڑھ کر دم کرے تو جس
 مطلوب اس کپڑے کو پہنے گا۔ فرما بزدار ہوگا اور اگر پانی کے اوپر چالیس بار پڑھ کر
 اپنا منہ دھو کر اس کے پاس جا دے مطلوب دوست ہوگا اور اگر ستہ پڑھ کر
 مرتبہ پڑھ کر آنکھ میں لگا دے جس کے نام سے کرے اس کے روبرو جا دے اس
 کو اپنا غلام پائیگا اگر کنگھی کے اوپر تیرار مرتبہ پڑھ کر دم کرے معشوق محبوب کا
 عاشق ہوگا اور وہ دعا مسکرم و معظم یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اللَّهُمَّ يَا مُسَخَّرِي مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سَخِّرْنِي
 فَإِنَّا اللَّهُمَّ ثَبَّتْ لَهُ فَذَلِّهِ فِي اللَّهِ أَرْحَمُ رَبِّ
 مَحَبَّتِي عَلَى أَمَانٍ فِي قَلْبِي وَجَعَلَهُ عَلَى رِزْقِنَا حَبِيبًا مَحِبًّا

عَلَى الْمُحِبُّوْنَ حَبَابًا
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 مَخْرُوجٍ مِّنْ بَيْنِيْ
 بِرَحْمَتِكَ كَوْسَنًا
 يَا عَزِيزًا يَا حَمِيدًا
 دیگر۔ سورہ آل
 مطلوب کو کھلا دے
 پایا ہے بسم اللہ

کفر باریہ
 سحر و جادو
 سحر و جادو
 سحر و جادو
 سحر و جادو

عَلَى الْمَحْبُوبِ حَبَابَاتٍ حَبَابِيٍّ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ طه الأضواء - اگر روز شنبہ
 شروع مہینے میں بوقت غروب آفتاب کے غسل کرے اور سورتہ طہ عطر کے اوپر
 پڑھے کہ معشوق کو سنگھارے معشوق اپنے عاشق کا شیدا ہو جاوے۔
 يَا عَزِيزُ يَا حَمِيْدُ يَا رَبُّ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ فَعَالَ لِمَا يُوَدُّ
 دیگر - سورہ الم تر کیف با موکل شریفی پر ایک سوا ایک بار پڑھے
 مطلوب کو کھلاوے فریفتہ ہو جاوے فقیر نے بارہا آزمایا ہے بہت ٹھیک
 پایا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط سَامِعًا مَطِيْعًا بِحَقِّ هٰذَا
 الْاِسْمَاءِ اِنْ تَقْضِ حَاجَتِيْ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ بَحْتِيْ يَا جِبْرِيْلُ فَعَلَّ
 رَبُّنَا بِحَقِّ يٰ اَتَمَّ اَسْمَاءٍ يٰ اَصْحَابِ الْفَيْلِ بِحَقِّ يٰ اَمِيْنَايْلُ اَلَمْ
 يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ بِحَقِّ يٰ اَلْكَمَائِيْلُ فِيْ تَصْلِيْلِ بِحَقِّ يٰ اَمِيْنَايْلُ
 وَ اَنْرَسَلْ عَلَيْهِمْ بِحَقِّ يٰ اِسْرَافِيْلُ طَيْرًا اَبَاطِيْلُ بِحَقِّ يٰ
 طُوْطَاطِيْلُ تَرْمِيْهِمْ بِحَجَارَةٍ بِحَقِّ يٰ اَبْدُوْحُ مِنْ سَجِيْلِ بِحَقِّ
 يٰ اَكْسَفَاطِيْلُ فَجَعَلَهُمْ بِحَقِّ يٰ اَرْحَمَاطِيْلُ كَعَصْفِ مَا كُوْلُ بِحَقِّ
 يٰ اَسْفَاطِيْلُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط فلان بن فلاں
 در محبت و عشق در محبت فلاں بن فلاں بقرار شدہ مطبوع و مستخر کرد
 دیگر - اگر اس نقش کو ساتھ نام مطلوب کے لکھ کر انار کے درخت میں
 لٹکاوے مگر مشک و عفران سے لکھے محبت قلبی پیدا ہو اور وہ یہ ہے
 ۱۱۲۱۵۱۱ ۱۱۲۶۹۶۱ ۱۲۷ ط ا ح ۵۶۲۱ ۱۱ و عفر

ت الساعت
 هم ك مطلوب
 او پر کچا
 نارات کو
 س ہو چکی
 لادے
 سے توجس
 بار پر کچا
 تر پر کچا
 سے اس
 محبوب کا
 بن الترمذی
 غنی
 تب
 المصیب

ایضاً۔ اگر قبیلہ روہو کر درمیان دو کتف کے پاندھے اور درمیان جنگ کے آدے فتح پاوے۔ اگر کسی شخص کو حاکم نے حکم مارنے کا دیا ہو اس مہر معظم کو لکھے اور بازو پر پاندھ کر روہو حاکم کے ہاؤے غضب حاکم لطف اور مہربانی سے سبیل ہو اور اللہ تعالیٰ اس حاکم کو مہربان کر دیوے مہر معظم یہ ہے۔ خاصیت اس کی بہت ہے لیکن بیابث موافقت مضمون مقصد کے اسی قدر اکتفا کیا۔

لا للکھے و ۱۱۱ ح ۵ ۱۱ ح ۵ ۱۱ ح ۳
 ج ۱۱۱ ماہ ۱۱۱ کا ۱۱۱ ۵ ۱۱۱ ۱۱۱
 مالک ۱۱۱ ع ۱۱۱ ح

۲۳-۱۳ ا ل ا ح بد ب و م اب و د و و ح ج
 ۶۱۸

مقصد سوم برائے عداوت و ہلاکت

ویکیز۔ برائے دفع ہونے دشمن اس نقش کو ساعت زحل میں لکھ کر دشمن کے گھر میں دفن کرے دشمن خانہ خراب ہو جاوے گا نقش یہ ہے..... ایضاً۔ برائے دشمنی اور نفرت ایک دوسرے سے چاہے میرا کہ بر ذرا تواریخ اور پر برگ اک تب کے ایک

۳	۱۰	
۲	۵	
۸	فلاں بن فلاں خراب	
	خستہ شود	

نفرت ایک دوسرے سے چاہے میرا کہ بر ذرا تواریخ اور پر برگ اک تب کے ایک

ایمن برادر اس کراچی
 حصہ
 دیوے
 دو
 ۱۱۶
 ۱۴۱
 ۱۱۱
 کا
 عداوت
 ویکیز
 ۶۱۸
 ۱۱۱
 اور
 ۱۱۱
 ۱۱۱

حصہ پر لکھے اور پاتی سے دھو کر اس پاتی کو دشمن کے آگن میں ڈال دیوے۔ ایسی عداوت ہو جاوے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے اور نہ ایک دوسرے کی بات پسند آوے چاہے وہ پہلے دوست جانی ہی کیوں نہ رہے۔

۱۱۹ ۵۵ ۱۱۱ ۱۳۸ صبح ۱۴۷ ۲۲ ۱۴۷ ۶ ۱۱

۱۴۱ ۵۱ ۱۴۲ ۱۱۱ ۴ ۱۱۱ ۷

۱۱۱ ۱۱۳ ۹۷ ۳ ۱۱۹ ۶ ۱۱


۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۹۱ ۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

عداوت و بغض فلاں بن فلاں درول فلاں بن فلاں پیدا شود دیگرے۔ واسطے عداوت کے روز شنبہ کو پرچہ کاغذ پر لکھ کر دریا میں ڈالے عداوت ہو جاوے۔ مجرب المجرب ہے اور وہ یہ ہے۔

۴ ۴ ۱۲ ۱۳ کسک ۸ ۱۵

۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۳ ۱۹

عداوت درمیان فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں پیدا شود و جگر رشود دیگرے۔ برائے جدائی درمیان دو کے اس طلسم کو اوپر گہیوں کی روٹی کے لکھے اور دریا میں ڈال دیوے مابین دو دوستوں کے ایسی جدائی ہو جاوے گی کہ پھر سمجھی میل نہ ہوگا اور وہ یہ ہے..... ایضاً:۔ برائے عداوت



اگر منظور ہے کہ درمیان دو دشمنوں کے عداوت ہو جائے تو چاہیے کہ اس اسم کو پانچ سو سات بار اوپر سرسوں زرد کے پڑھے اور دونوں کے

گھروں میں ڈال دے دائمی جدائی ہو جاوے گی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ مَعْشَرِ الْحَقِّ وَاحْضُرْ عِنْدِي بِحَقِّ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ
دین بھاء الدین سندی احضرا احضرا العجل العجل العجل
الساعت الساعت۔

درمیان فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں کے جدائی ہو دے۔


ویگرو۔۔ برائے خانہ برابری دشمن بارہ ڈھیلہ پاک مٹی لے کر اوپر ہر گھڑے
بارہ بار اس آیت مکرم کو پڑھ کر دم کرے اور دشمن کے گھر میں ڈال دے
سگر آدھی رات کو پڑھا کرے تین روز برابر ایسا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اندر
تین مہینے کے خانہ دشمن خراب اور دیران ہو جاوے گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
فَاتٍ وَيَبْقَىٰ دَجْدُهُ سَابِقَ ذُو الْجَلَالِ ذَا الْاِكْرَامِ۔ یا ذُو الْجَلَالِ
ذَا الْاِكْرَامِ کو گیارہ روز تک سا کھڑے پڑھنے کے گیارہ سو سے شروع کرے
اور ہر روز ایک زیادہ کرتا جاوے اور تصور دشمن کا بروقت پڑھنے کے
رکھے اور ہر روز غسل کر کے دس بجے رات سے شروع کرے تاکہ ۱۲ بجے
رات تک ختم ہو واسطے ہلاکی دشمن کے مجرب ہے۔ ویگرو۔ واسطے دفع
دشمن و عداوت کے مجرب ہے جلد اثر کرتا ہے چلے نہایت موثر ہے
چاہیے کہ ایک گھڑا کورا لاوے اور اکتالیس بار سورہ یس پڑھ کر
اس پر دم کرے اور اس کو توڑ دیوے دشمن دشمنی کرنا چھوڑ دے گا
اور اگر وہ پھر بھی عداوت پر کبستہ رہا تو ایسا تباہ ہوگا کہ نام و نشان
تک باقی نہ رہے گا جب جب سورہ ختم ہو تو نام ہر چہار کا ضروریوں

ویگرو۔
دشمن مقہور
ہو تو اس کو
مزمل شریف
آٹے سے گا

سورہ مذکور
کرنا مقصد
ہو کہ دشمن
طرح سے
میں اس
آکھرت
رکھے

۴
ویگرو
تو اس

دیگر۔ اگر حسب "غ" کو ستر بار پڑھ کر طرف دشمن کے پھوٹے
 دشمن مقہور ہوگا۔ دیگر۔ اگر چاہے کہ دو شخصوں میں سخت عداوت
 ہو تو اس کو چاہیے کہ ادھی رات کو ایک گھڑا پانی سے بھر اہوا لاکر سورہ
 منزل شریف کو اکتالیس بار بنیت عداوت کے پڑھ کر دم کر کے جو کے
 آٹے سے گھڑا بند کر کے چوراہے پر ٹپک دیوے عداوت سخت ہو جائیگی
 سورہ مذکور پڑھتے وقت نام دشمن اور اس کی ماں کا اور جس سے عداوت
 کرنا مقصود ہونا اس کا اور اس کی ماں کا لیتا رہے دیگر اگر منظور
 ہو کہ دشمن در دشمن میں مبتلا ہو تو چاہیے کہ دشمن جہاں سوتا ہو کسی
 طرح سے اس کے سر ہانے کی خاک حاصل کیے اور ایک کوری یا تڑی
 میں اس نقش کو لکھ کر ڈالے اور اس خاک پر سات مرتبہ سورہ
 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ پڑھ اس یا تڑی میں ڈال کر خاک پر سات روز برابر
 رکھے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ دشمن در دشمن میں مبتلا ہو جائے گا۔



دیگر۔ اگر چاہے کہ درمیان دو شخصوں کے عداوت قلبی پیدا ہو
 تو اس دعا کو لکھ کر پرانی قبر میں گاڑ دیوے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ عداوت

هُوَ جَاءَ كَى - الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الْحَاقَّةُ
 الْقَائِرَةَ مَا الْقَائِرَةَ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الْقَائِرَةَ إِذَا نَزَلَتْ
 الْأَرْضُ نَزَلَتْ الْعَادَا خَرَجَتْ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفَالِهَا وَقَالَ الْوَلَدُ
 مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَادَهَا عَلَوَاتٍ وَيَنْضُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
 دَرَدَلُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ كَيْ پیدایہو۔ دیگر۔ واسطے اندھا کرنے دشمن
 کے اوپر پارچہ کفن مردہ کے یہ آیت لکھے اور پاک قبر کہنے سے لاکر اس کپڑے
 میں باندھ کر پرانی دیوار کے نیچے اس کپڑے کو دفن کر دے اللہ تعالیٰ
 دشمن بہ برکت اس آیت پاک کے اندھا ہو جاوے گا لیکن ناحق کسی کو
 اذیت نہ دینا چاہیے اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ سَ تَأْتِيهِ حِلٌّ
 فَكُنِيَ قَدِي شِيءٌ تَك - دیگر۔ اگر ان اسموں کو لکھ کر پانی میں دھو
 کر جس سے ڈرائی کرنا منظور ہو اس کو پلاوے۔ طرائی، تکرار، عداوت
 ہو جاوے گی معنایا ہر چہا کس کے لکھے۔ یا طہا یا استعیصہا
 هَا لَسَعَهَا مَا طَسَعَا حَالِمْ سَا لَمَسَ ۸۸

رحمن لوالہ م م در فلاں بن فلاں جدائی افتد
 دیگر۔ اس آیت کو لکھ کر جس سے جملہ اگرنا منظور ہو پلاوے طرائی
 ہو جاوے گی۔ اَعْزَبَكُمْ الْاَمْرِي الْاَسَا كِنْتَهُمْ وَالْقِيَامَةُ بَيْنَهُمْ
 الْعَدَا دَا ذَا الْبَعْضَاءِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانْتَهُمْ يَوْمَ كَرِيْمًا
 لَهُ يَلْبَسُو الْاَسَاعَةَ مِّنَ الْاَسَا ضَا لِيَعْفُو بَا حَلْ مَضٍ بِهِمْ
 احد وليمع بهم سا کرا دیگر۔ اگر اس تعویذ کو قلم فولاد سے

ابن برادر
 اوپر شاد کاؤ
 ادوار
 سی و بعین
 دیگر واسطے
 اس کو لکھ کر
 دے دشمن
 وہ یہ ہے
 دیگر۔ اگر
 پارچہ نو میں
 کر دے جب
 میں بیگامہ
 آزمودہ ہے
 باز نہ آتا ہو
 اس فعل
 ایک سفا
 اس ظالم
 رکھے کہ کوئی
 میں اس جا
 ایک سو

ادیر شازہ گاؤ کے لہکری زمین کے نیچے دفن کروے دشمن ہٹا کر ہو جائے

اد ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰

سی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰




دیگر واسطے خرابی دشمن کے
اس کو لہکری زمین میں دفن کر
دے دشمن تیاہ ہو جائے گا اور
وہ یہ ہے.....

دیگر یہ۔ اگر گ سیاہ کے دانت اور گریہ سیاہ کے دانت کو ایک جا
پیار چہ لوزیوں پوٹلی بنا کر جس کے گھر میں چاہے وہ پوٹلی مذکورہ منہاں
کر دے جب تک پوٹلی اس جگہ سے نکال نہ لے گا تب تک روز اس گھ
میں بیٹھا رہے گا۔ اگر چہ وہ جہنم بھی ہوں تو بھی قساویہ قوت سے بیٹھا
آزمودہ ہے دیگر یہ۔ اگر کوئی شخص ناحق کسی کو ایذا دیتا ہو اور کسی طور
باز نہ آتا ہو تو لازم ہے کہ پہلے اس کو اس بات سے آگاہ کر دیوے کہ تم
اس فعل سے باز آؤ اور اگر کہنے پر بھی باز نہ آوے تو لازم ہے کہ لاوے
ایک سفال آتش نارسیدہ اور چھری کی نوک سے اس پر صورت
اس ظالم کی کھینچے عورت ہو خواہ مرد اور ایک جگہ میں اس کو الگ
رکھے کہ کوئی دوسرا اس جگہ نہ جاسکے۔ رختوڑی زمین لپیپ کر بخش عت
میں اس جگہ بیٹھ کر اس تصویر کھینچی ہوئی کو آگے اپنے کھڑا کرے اور
ایکسواٹھا ٹیس دانہ ماش سیاہ آگے اپنے رکھ کر ہر دانہ ماش پر

ایک بار اس کو پڑھے اور اس صورت کو ماسے اسی طور سے کل وارہ
 ختم کر دیوے اکیس روز بلا ناغہ کرے پھر دشمن کی حالت دیکھے مگر...
 حتی الامکان خود رو بات برداشت کرے اور صبر کرے تو یہ بہت بہتر ہے
 ایسا ہی لاچار ہونو کرے کیوں کہ اس کا بھی مواخذہ روز قیامت اللہ جل جلالہ
 کو دینا ہوگا اس سے صبر کرنا بہتر ہے یا جبرائیل جبرکریا میکائیل
 قہرکریا اسرافیل اثرکریا عزرائیل موت کریا کلفائیل
 اضطراب کر فلاں بنت فلاں پر مار کر بختی یا بڈ دوح یا بڈ دوح
 یا بڈ دوح یا بڈ دوح۔

مقصد چہارم زبان بندی ثواب بندی

فصل اول در بیان زبان بندی :- جو کوئی اس نفس



محظوم کو اپنی پگڑی خواہ ٹوپی
 میں رکھ کر رو برو دشمن کے خواہ
 حاکم کے رو برو جاوے اس کی زبان
 بند ہو جاوے گی اور غصہ کے بدلے

ساتھ بہرانی اور محبت کے پیش آوے گا۔ نفس یہ ہے ۱ دیگر جو کوئی
 اس دعا کو لکھ کر اپنے پاس رکھے زبان ماسدوئی بند ہو جاوے گی مجرب ہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا بڈ دوح یا بڈ دوح یا بڈ دوح کلید
 لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ بِرَمَالِش مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَبِرِیَالِش عَصَا مُوسٰی

ایں برادر س
 دبر جگر شمع
 بن فلاں تاسن
 یا آرحم اللہ
 یا بڈ دوح یا بڈ
 خود پر حاکم متعلقہ
 خواہ دشمن کے
 انا للجد امر
 دیگر :- واسے
 دم کرے اور کہے
 پتھر کے نیچے دیا
 اس ترکیب سے پتھر
 سے سوئی اس
 الحمد للہ
 بستم بستم ہر دو
 الشرحیم ہر
 فلاں مالک
 بجز فلاں بن فلاں
 دست فلاں
 دل وجان فلاں

دبر جگرش عصا و مہتر سیلان در ہد ہا نش لبتم زبان و دل و ہوش فلان
 بن فلاں تا من نکشایم کے نکشاید بحق گھنٹھ ص حمتق سو حمتق
 یا ارحم الراحمین یا بدو ح یا بدو ح یا بدو ح یا بدو ح
 یا بدو ح یا بدو ح - دیگر - واسطے زبان بندی کے اور مہربان کرنے
 خود پر حاکم متعلقہ کے تین مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے رو برو حاکم
 خواہ دشمن کے جادے انکو غصہ کے بدلے مہربان پاویگا اور وہ یہ ہے
 ان اللجد ارحم من ارحم من ابویہ فطلنی تجد فی
 دیگر - واسطے زبان بندی کے قفل پر اکیس مرتبہ سورہ منزل پڑھ کر
 دم کرے اور کہے لبتم زبان و دل فلاں بن فلاں اور اس کو بند کر کے بھار
 پتھر کے نیچے دبا دے - دیگر - سورہ الحمد کو واسطے زبان بندی کے
 اس ترکیب سے پڑھے موم سے ایک صورت آدمی کی تیار کرے اور اس طریقہ
 سے سوئی اس کے جسم میں گاڑے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لبتم لبتم فلاں بنت فلاں تانہ بیند کسے را
 لبتم لبتم ہر دو گوش فلاں بنت فلاں بہر فلاں سخن کسے نشود الرحمن
 الرَّحِیْمِ ہر دو چشم لبتم لبتم فلاں بنت فلاں تانہ بیند کسے را بجز
 فلاں ما لک یوم الدین لبتم لبتم فلاں بن فلاں تانہ کس خبر نہ گوید
 بجز فلاں بن فلاں ایتا لک نعبد و ایتا لک نستعین لبتم لبتم ہر قل
 دست فلاں بنت فلاں اهدنا الصراط المستقیم لبتم لبتم
 دل و جان فلاں بنت فلاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب

Handwritten marginal note in blue ink, partially obscured by a scribble.

Handwritten text in the right margin, including the words "کل دانه", "مگر...", "بہتر ہے", "سجد جلال", "ایمل", "ایمل", "روح", "نفس", "فی", "دوس", "کوئی", "ہے", "کلید", "وسنی".

دیگر :- اگر اس نقشِ معظم کو لکھ کر اپنے بازو کے اوپر باندھے تمام جہاں کی نظر مہربانی اور محبت کی اس پر ہو اور ہر دل عزیز رہے زبانِ فلاح کی بد گوئی سے اس کی بند ہو جاوے اور اسکی بزرگی سب کے دل میں اثر کرے برکت سے اس نقش کی اور وہ نقش یہ ہے ←

۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸
۱۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۱۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸	۲۲ ۳۴ ۶۸ ۲۲ ۳۴ ۶۸

سے اس کی بند ہو جاوے اور اسکی بزرگی سب کے دل میں اثر کرے برکت سے اس نقش کی اور وہ نقش یہ ہے ←

دیگر :- سورہ یٰسین مبارک سیاہ ناگا اکیس تار لے کر ہر مین پر گرہ دیوے جب دم کر لیوے تو پھر شروع کرے جب دوسری مین پر پہنچے دوسری گرہ دیوے پھر شروع کرے جب تیسری مین پر پہنچے تیسری گرہ دیوے اسی طرح ہر مین پر پہنچ کر گرہ دیوے اور دم کرے اور شروع سورہ سے شروع کیا کرے جب ختم ہو جاوے تو کہے لبتم فلاں بن فلاں بر فلاں بنت فلاں کے تاسن نہ کشایم کسے

د ۲۴	۵۱۱	۱۳۴	بیس ح
۱۳۵	۶ ص	۳ و	۳۵
ط	فلاں	بنا	ح ۳
ن ۹	۱۱	ع ۸	۶۱۵

نہ کشاید - دیگر - واسطے زبان بندی کے اس نقش کو لکھ کر موم بنا میں لپیٹ کر دریا میں رکھ کر اوپر سے پتھر سے دبا دیوے۔ بظلم بن فلاں بن فلاں

س پر گز بہر گز پتلا سوئی چبھا س افناں و خیزاں لسم کو لکھ کر زبان بائے گی۔

تو بد گویوں کی واسطے زبان بند کی جانے کے وقت حاکم لکھ کر موم میں لپیٹ کر دریا میں ڈبا دیوے۔



دبتم فلاں بن فلاں بن فلاں کی جگہ پر اس کا اور اس کی ماں وغیرہ کا نام
نقش کے نیچے لکھے۔

فصل دویم خواب بندگی - واسطے خواب بندگی معشوق کے
اور حیرت میں ڈالنا محبوب کا چاہیے کہ اس طلسم کو اوپر کاغذ خواہ چمڑا
نولاد کے لکھے اور وقت لکھنے کے کسی سے بات نہ کرے پھر اس کو زمین
میں دفن کر دے محبوب کا خواب بند ہو جائے گا بلکہ بہتر ہے خود بھی
اس رات کو نہ سوئے تاکہ معشوق کو آرام و چین نہ ملے اور بے قرار ہو کر حاضر
ہو اور وہ یہ ہے۔

۱۱ ۶ ۱۱ ۵ ۱۱ ۳۷ ۱۸۱ ۱۱ ۷ ۱۱ لبتم خواب

فلاں بنت فلاں - دیگر - واسطے خواب بندگی کے اس تعویذ کو لکھ کر
جہاں شخص مطلوب سوتا ہو

۷۸۶


۸	۶	۳	۲۰
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۳
۴	۲	۸	۶

وہاں دفن کر دے اور وہ تعویذ
یہ ہے.....
دیگر - اگر اس تعویذ کو لکھ کر
طالب اپنے سر ہانے رکھے مطلوب

گوہر گزنینہ آوے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ طَقْبَاۤیِ الْاَکْبَرِ
رَبِّ سَمَاتِکَیْ بَانَ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ
اَنْ تَنْفِذُوْا مِنْ اَقْطَابِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفِذُوْا
تَنْفِذُوْا اِلَّا بِسُلْطٰنِ کِتٰبِ هٰذَا التَّعْوِیْذِ النَّوْمِ فَلَانِ

بن فلاں بن
وقت لکھ کر
سے نقش
دیگر -
بال حاصل
ناٹھ دو لوز
کر کے بل دیگر
گرہ دے اور
آیت ہذا کو
کرے بلا شک
شخص کا
اور سر گز
یہ بخدا
اٰمَنُوْا
العذاب
دیگر
حاصل
کو پڑھ کر
خواب

بن فلاں سنجاب فلاں بن فلاں - دیگر یہ اس نقش کو صبح کے وقت لکھ کر مسجد یا مطلوب کے گھر میں دفن کر دے باذن اللہ دعوت سے نقش ہذا کے خواب تہ ہو - مجرب ہے نقش یہ ہے



دیگر یہ - محبوب کے سر کا بال حاصل کرے اور ناڑہ دونوں کو یکجا کر کے بل دیگر دو سو بار گرہ دے اور ہر گرہ پر آیت ہذا کو پڑھ کر دم کرے بلا شک دل اس شخص کا بہ قرار ہوگا

اور ہرگز خواب آویگا آیت مبارکہ یہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوَىٰ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
دیگر جس جگہ مطلوب سوتا ہو اس جگہ اس کے سر پانے کی خاک حاصل کرے اور دن الزوار یا جہرات کا ہو اس پر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کرے پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کر گرہ دے کر رکھے۔ خواب مطلوب جب تک کہ طالب کے پاس نہ آدے گم ہے اور وہ

وغیرہ کا
شوق کے
ز خواہ چہ
اس کو زمین
ہے خود بھی
ہو کر حاضر
۱۱۱
خواب
تعویذ کو لکھ کر

۸
۲
۶
۱۷
پا آئی
سقطت
و بعد
نقد و
فلاں بن

مقصود مسائل الی غلات

مقصود اس مقصد سے ہوا ہے کہ غلات میں
جو باتیں مذکور ہیں وہ سب ان کے اسباب
و اثرات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔
اور ان کے علاج کے واسطے بھی
تعمیرات کی ہیں۔ اور ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے

فصل اول - جاننا چاہیے کہ عمل کرنا
اس کے واسطے ضروری ہے کہ اس میں
جو باتیں مذکور ہیں وہ سب ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے
اسباب و اثرات کے ساتھ ان کے

کریں تو اولاً لازم ہے کہ استاد کامل تلاش کرو اور پھر عمل شروع کرو۔
 عمل علوی ہو خواہ مغلی سبب خوف و خطر ہے اور سبب میں استاد کی ضرورت
 و دیگر۔ برا عمل قل ہو اللہ چالیس روز رات کے وقت تین ہزار ایک سو
 پچیس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھا کرے کہ چالیس روز میں سو لاکھ
 کی تعداد پوری ہوتی ہے اس درمیان میں روٹی بے نمک کی خواہ چاول
 بجز نمک کے علاوہ کوئی دوسری چیز استعمال نہ کرے۔ چالیسویں روز ہو کل
 حاضر ہوں گے جب قدر دینے کا وعدہ کریں گے صبح کو تکیہ کے نیچے ملے گا۔
 اور اگر ہمیشہ اسی قدر پڑھا کر دے جو کہو گے پورا کریں گے۔ دیگر۔
 ختم سورہ قل ہو اللہ جس مہینے میں غزہ جہرات ہو اس روز روزہ
 رکھے صبح کی نماز کے قبل غسل کرے اور وضو کر کے نماز صبح گزارے
 بعد اس کے ہزار مرتبہ سورہ مبارک قل ہو اللہ پڑھے اور اسی طرح
 ادھی رات کو اٹھ کر بعد غسل اور وضو کے دو رکعت نماز گزار کر سورہ
 مبارک کو ہزار مرتبہ پڑھے اور اسی طرح بعد ہر نماز واجب کے چودہ روز عمل
 کرے پندرہویں روز پھر جہرات ہوگی غسل کر کے تمام رات میں...
 پندرہ ہزار مرتبہ اس اہم مبارک کو پڑھے **يَا حَنَانُ اَنْتَ الَّذِي
 وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَتُهُ وَاَعْلَمُ** پھر اس دعا کو ہزار مرتبہ پڑھے
**اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْفِرَ لِي بِحَقِّي فَذِكَا السُّورَةِ
 الشَّرِيفَةِ بِحَقِّي مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّهِ يَتَمَّ بِهٖ يَتَمَّ بِهٖ يَتَمَّ بِهٖ** اور تین

سوکل صاحب عمل پر ظاہر ہوں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے
 کہ اے عبد صالح تیرا مطلب پورا ہوا بڑی مراد حاصل ہوئی ایک
 کہے گا کہ میرا نام عبد الواحد ہے چونکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو نے
 پڑھا میں حاضر ہوا جو تو کہے گا میں کروں گا اور جس جگہ کہے گا تجھ کو
 ایک خطہ میں پہنچا دوں گا۔ پھر دوسرا کہے گا میں عبد الصمد ہوں
 تو نے اللَّهُ الصَّمَدُ پڑھا میں حاضر ہوا کھانا ہر قسم کا حلال تیرے
 واسطے حاضر کروں گا۔ تیسرا گویا ہو گا کہ میرا نام عبد الاحد ہے چونکہ
 تو نے كَفُوًا أَحَدٌ پڑھا ہے میں حاضر ہوا چھپی ہوئی باتوں کو تجھ
 سے کہوں گا اور تجھ کو کیمیاء وغیرہ سے آگاہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سب
 غائب ہو جاویں گے اور وقت ضرورت حاضر ہوا کریں گے۔ لیکن
 صاحب عمل پر لازم ہے کہ ہر وقت ساتھ طہارت کلی کے با وضو رہے
 اور ہر روز بعد نماز صبح اول و آخر درود تنویر مرتبہ اور ہزار مرتبہ سورہ اخلا
 کا ورد ہمیشہ رکھے اور فصد حرام کاری وغیرہ کا نہ کرے ورنہ خوف اس
 کے خود ہلاک ہونے کا ہے اور اس عمل کے واسطے اکل حلال و صدق
 مقال و استا و کامل کا ہونا ضروری ہے ورنہ خطر زیان کا امکان ہے
 برائے ہمزاد:- ہمزاد کا خطرہ ہے یہ عمل آفتاب نکلنے وقت
 نور مرتبہ پڑھے اول و آخر درود تین تین بار اور اسی قدر شام کے بعد اس
 کے صبح و شام دونوں درمیاں درود کے ایک سو گیارہ بار اس کو پڑھے
 اِحْضَرُوا احْضَرُوا احْضَرُوا يَا هَمَزَادُ لَكَ الْمَثَلُ الْاَكْمَلُ يَا حَيُّ

امین برادر
 یا قتیب
 کیف
 پر گڑھا
 ادقات
 مرتبہ زکوٰۃ
 دیوے
 پھر حب
 عمرہ کپڑا
 کے انگو
 پڑھتا جا
 میں سوا
 یہ ہے آ
 زکوٰۃ پک
 چالیس
 کہ اشا
 یومیہ
 روز
 ہوا
 خا

یَا قَتِيبًا يَا هَمْدَانَ يَا مُسْتَحْرَجَاتِ يَا طَيِّبَةَ الْأَمْثَرِ
 كَيْفَ صَدَّ ظِلُّهُ جَلَّتْ يَارَسُوْلُ اللهِ جِبِ يَهْ طْرَهْ چکے تو زمین
 پر گر پڑا کرے تاکہ ہمزاد اس کا تابع ہو یہ عمل چالیس روز تک رہ پانچویں
 اوقات کرے۔ دیگر:۔ واسطے حضرات بادشاہ حین کے سوا لاکھ
 مرتبہ زکوٰۃ دیوے اور واسطے دیکھنے دینے کے پانچ لاکھ مرتبہ زکوٰۃ
 دیوے اور پریزہ جلالی اور جمالی دونوں لازم ہیں تاکہ عمل پورا ہو۔
 پھر جب ضرورت ہو ایک طفل نابالغ خوب صورت کو غسل دلا کر اور
 عمدہ کپڑا پہنا کر عطر اور خوشبو سے مسح کر کے اس کے داہنے ہاتھ
 کے انگوٹھے کے ناخن کو کاجل سے سیاہ کر دیوے اور عامل بلا تعداد
 پڑھتا جاوے جب بادشاہ حاضر ہو پڑھنا موقوف کرے اور جس
 میں سوال و جواب کرنا ہو کرے انشاء اللہ جواب ٹھیک ملے گا اہم
 یہ ہے اللهُ الصَّمَدِي يَا مُحَمَّدًا مَدَدِي۔ دیگر اس نقش کی

زکوٰۃ یک ہزار و یک نقش

۳۳۵۰۸	۳۳۵۰۳	۳۳۵۱۰
۳۳۵۰۹		۳۳۵۰۵
۳۳۵۰۴	۳۳۵۱۱	۳۳۵۰۶

چالیس روز کے اندر مساویانہ

کہ اثنائیس روز تک چھپس

یومیہ کے حساب سے اور چالیسویں

روز چھپس نقش لکھ کر دریا میں ڈالے زکوٰۃ پوری ہو گئی اب جب ضرورت

ہو اسی نقش کو لکھ کر آسیب زدہ کو دے اور ہدایت کرے کہ سیاہ

خانے پر نگاہ رکھے جو آسیب اس کے جسم پر ہوگا موکلاں اس نقش

فصل دوم برائے دفع آسیب ہر قسم، یہ فلیتہ حضرت
 مخدوم اشرف جہاں نیاں جہاں گشت کا پہلے چراغ نیا لاکر
 روغن تلخ ڈال کر اس کو روشن کرنا ہوگا اور مکان کو لپیپ کر خوشبود
 پھول اور کانور و صندل و لوبان اور سات بیڑہ پان گیارہ چھٹانک
 شربتی یہ سب موجود کر کے فاتحہ بروج مخدوم ممدوح کے دیوے تب
 فلیتہ روشن کرتے وقت اس کو پڑھتا رہے۔ سو ختم دیوان و پریان
 و جنان و جوگیان و جنیشاں و عفرتیاں و بال سرو دیواں سرو دیوان
 سر اوسمی و سحر و جادو و ترش کہ در اندام فلاں بہت فلاں متولی شدہ
 است مزاحمت میدہد درون چراغ در آید و بسوزد و دفع شود و بختی
 آسما و اعظم علیقا ملیقا انت تعلم ما فی قلوبہم ملیقا
 فلیسکو ثمالہم و اسفادون و جنود ابلیس اجمعون انت
 من سلیمان و انت یسئلہ اللہ الرحمن الرحیم ان لا
 تخلوا علی و آلہ و اولیٰ مسلمین الیجل الیجل الساعۃ
 الوحا الوحا الوحا البقا البقا البقا ابلیس علیہ لعنت
 شد اد علیہ لعنت فرود و لید لعنت قارون علیہ
 لعنت فرعون علیہ لعنت ذقیانوس علیہ لعنت و طیار
 علیہ لعنت حافر گرائی و بسوزد و دفع شود و جب تک فلیتہ جلنا
 رہے یہ پڑھتا رہے۔ فلیتہ صفحہ ۳۴ پر دیکھے بوجہ قلت جگہ پہا
 تحریر کیا گیا۔

ایں
 ابلیس
 دیگر
 زردہ
 التاج
 یحییٰ ایما
 ربنا
 اھدنا
 ۱۱۱
 دیگر
 پر چھٹا دیو
 مرتبہ پڑھ کر
 جادوے گا
 لکھ کر
 جو صفحہ گذ
 مثل سابق
 کا خواہ جل

سوختم دیواں را د پریاں را و چو گیاں را و کنیاں را و جنباں و عقرباں را

و دیواں نرینہ و ما دینہ را و چو پریاں و کشرنت و غنت و گفتار را و سحر و

جاد و را و زہر باد و اہرمن را شناختہ او جمیع الجن و الشیاطین را کہ در

وجود فلاں و بنت فلاں مسلط شدہ است و مزاحمت میرساند بہ حرمت

ایں اسما محمود درین چراغ و فلیتہ سوختہ نشود۔ دیگرہ۔ مربع ناوی
۷۸۶

۸	۲۲۹۱	۲۲۹۲	۱
۲۲۹۳	۲	۷	۲۲۹۴
۳	۲۲۹۶	۲۲۸۹	۶
۲۲۹۰	۵	۴	۲۲۹۵

برائے دفع آسیب جن
اور خبیث یہ نقش لکھ کر
آسیب زدہ کے گلے میں
باندھے بہ کرم اللہ تعالیٰ
آسیب دفع ہوگا جرت

اور آزمودہ ہے نقش یہ ہے..... دیگرہ۔ شب یکشنبہ یا

۴۱	۴۸	۲	۷
۶	۳	۲۵	۲۲
۴۷	۴۲	۸	۱
۴	۵	۴۳	۴۶

دوشنبہ خواہ چہار شنبہ کو چراغ
نویں جلادے اور رضی سے
کہے کہ چراغ کی طرف نگاہ رکھے
جو کچھ آسیب ہوگا موکل حاضر
کریں گے اگر بیماری ہوگی خبر دیں گے

امین برادر
روغن گاو
لوبان و
تکلیف
دیگرہ۔ کی
آسیب ہو
نقش کو
زدہ کے گلے
دیا جائے
آسیب
حائے گام
دیگرہ۔
کا خلل ہو
اس کے گلے
خلاق عالم
یہ
دیگرہ۔
کو

روغن گاد میں فلیتہ روشن کرے خواہ روغن کبجڑ میں۔ بخور
 لوبان و عود، صندل اور شیرینی یازوہ چٹانگ اور پھول رکبکر
 فاتحہ دیکر صبح کو ان سب اشیاء کو دریا میں ڈال دے نام مریض اور
 اس کی ماں کا تعویذ کے نیچے بکھے کہ جو کچھ جسم میں فلاں بنت فلاں کے
 تکلیف دیتا ہے اے سوکلوں ان سب کو حاضر لاؤ اور جلا دو۔

دیگر:۔ کیسا ہی سخت

۲۳	۲۵	۳۴	۵۱	۱۷
۳۶	۳۷	۱۸	۵۶	۳۰
۱۹	۲۴	۳۱	۲۲	۳۸
۲۷	۲۳	۳۹	۲۰	۲۶
۵	۲۱	۳۸	۲۲	۳۶

آسیب ہوگا اگر اس

نقش کو لکھ کر آسیب

زدہ کے گلے میں باندھ

دیا جائے گا الشالہ

آسیب ضرور دفع ہو

جائے گا مجرب دارمودہ ہے نقش یہ ہے

دیگر:۔ اگر کسی کو آسیب

لاخلل ہو اس تعویذ کو لکھ کر

اس کے گلے میں باندھے حکم

خلاق عالم شفا ہوگی نقش

۵	۵	۵	۱
۹۲	۱۷	۱	۲۸
ع	۱۱	۱۵	۸۵
۱۶	۱۶	۳	۱۳

یہ ہے.....

دیگر:۔ برائے سوختن آسیب زبردست۔ سب سے پہلے سو پانچ سیر

کوئلہ دھو کر سکھلاوے اور ایک سو چوبیس گلی میں آب نار سبز ملا کر ایک

ایک سو ٹکڑے کرے۔ ایک نقش چونتیس والا یعنی یہ نقش مربع اور سو ٹکڑوں پر مثلث آکشی یعنی نقش لکھے اور چونتیس والا مربع لکھ کر شیرینی سوا سیر پر فاختہ حضرت عوث کی کر کے فلیتہ روشن کرے اور باقی مثلث کو آگ اسی کو ٹکڑے کر کے اس میں مریض کے سر سے اتار اتار کر ڈالتا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ آسب جل جاوے گا۔ بلکہ آسب جلنے کی بوتلک آوے گی۔ خوش بویات موجود رکھنا چاہیے لویان اصندل اگر جلانا ہوگا اور آسب زدہ کو سامنے بچھانا ہوگا از مولوی سید منصب علی صاحب مدظلہ نقوش مربع اور مثلث ذیل میں۔

نقش مثلث

نقش مربع

۸	۱۱	۱۲	۱	۶	۱	۸
۱۳	۲	۷	۱۲	۷	۵	۳
۴	۱۶	۹	۶	۲	۹	۲
۱۰	۵	۴	۱۵			

مقصد ششم متفرقات میں

دیگر۔ یہ نقش مربع برائے دفع تہیج امراض کے خاصیت کثیر کی رکھتا ہے لکھ کر گلے میں باندھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلیٰ

مظ
عونا
کل
سنو
ہو یہ
در سرد
در دہفت
نقش
دیگر
نقش کو
مالک
نقش
بار
اوپر
یا ساوی

ترتیب دیگر

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

مَطَهَّرَ الْجَانِبِ بِحِدَّةٍ
عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ
كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَجْعَلِي
بَيْنَ يَدَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ
بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ

یاعلیٰ اور نقش مربع یہ ہے دیگر - جس جگہ درد ہو یہ تعویذ لکھ کر باندھے برائے

د	ر	ل	د
ط	د	د	س
لا	برہ	سفنہ	ح
نو	ن	ح	ع

درد سرد درد دیگر درد کمر اور
درد ہفت اندام کے لئے مفید
ہے نقش یہ ہے دیگر

۲	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

اگر سر میں درد ہو تو اس
نقش کو لکھ کر باندھے بحکم
مالک دو جہاں شفا پاوے گا
نقش یہ ہے دیگر

دیگر - برائے درد سر اس درود شریف کو بخوبی نیت پڑھ کر دم
کرے صحت ہووے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
بَارِكْ وَسَلِّمْ دیگر - برائے دفع درد سر پہلے تین مرتبہ آیت الکرسی
اور پھر سفید کاغذ کے پڑھ کر دم کرے اور پھر یہ دعا پڑھے یَا فَادِي
يَا سَادِي يَا قَلْبِي - لفظ لکھ کر لچیا لانا مفروض سے کاٹے

نقش مربع
والا مربع
شن کرے
کے سرے
کا بلکہ
چاہیے
انا ہوگا
در مثلث

۸
۱۳
۴
۱۰

کسیر
عَلِيًّا

انشاء اللہ صحت حاصل ہوگی۔ دیگرہ۔ برے رونے درد چشم جبھی
 آنکھوں میں درد ہو اگر شتر مرتبہ پڑھ دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ بیش
 سال تک اس کی آنکھوں میں درد نہ ہوگا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ يَا نُورَ النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ يَا نُورَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ
 وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلٰى الْعَرْشِ
 وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِیْمُ دیگرہ۔ برے درد کان اس کو لکھ کر کان
 میں باندھے بفضل تعالیٰ درد دفع ہو قالوا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا عَفْوًا اِنَّكَ
 رَبَّنَا اِلَيْكَ الْمَصِیْرُ دیگرہ۔ برے درد ناک اس آیت کو لکھ کر
 دانت میں دباوے۔ صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ عین خموس یا سمون۔
 دیگرہ۔ جس کے گلے میں درد ہو اس آیت مکرم کو لکھ کر گلے میں باندھے
 اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا لَّا يَفْحٰى اِلٰى الْاَذْقَانِ مِنْهُمْ
 مَّقْمُوحًا دیگرہ۔ جس کو کھانسی آتی ہو اس تعویذ کو لکھ کر
 دن میں تین مرتبہ چائے کھانسی خشک ہو یا قرآن اللہ شفا ہوگی۔

صع	صع
صع	صع

دیگرہ۔ جس کے سینے میں درد ہو اس تعویذ کو لکھ کر باندھے وَ اِنَّ لَكُمْ
 فِيْ الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّسَعٰیكُمْ فِيْ بُطُوْنِهِمْ مِنْ بَيْنِ اَنْفُسِكُمْ
 وَ دِمِّ لَكُمْ خَلِصًا سَا بِلًا لِلشَّرِیْمِ دیگرہ۔ اگر کسی عورت کا

ابن برادر
 دودھ کم ہو
 دودھ زیادہ
 ماخول کل
 شئی عندک
 دیگرہ۔
 کو کھلا دے
 کے واسطے اس
 جانا سیکھا۔
 ابراہیم
 سورہ فاتحہ
 مجرب اور
 درد شکم کے
 بھی درد

دودھ کم ہو گیا ہو تو اس تعویذ کو اس کے گلے میں باندھے انشاء اللہ
 دودھ زیادہ پیدا ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ اَعْلَمُ
 مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَىٰ وَمَا تَغِیْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَنْزِلُ اَدْمَلُ
 شَیْءٌ عِنْدَکَ اِیْمَقْدَ اِسْرِ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْکَبِیْرُ
 الْمُتَعَالِ - دیگر :- واسطے زیادتی دودھ کے زیرہ سفید اور جلول
 کا آٹا، دودھ شامل کر کے حسیرہ بنا کر عورت کو پلاوے اور یہ طریقہ
 سات روز متواتر جاری رکھے دودھ کے پیدا ہونے میں زیادتی ہوگی
 دیگر :- اگر سورہ نسیں شریف نمک پر سات مرتبہ پڑھ کر عورت
 کو کھلاوے دودھ کی پیدائش میں کثرت ہوگی۔ دیگر :- درود
 کے واسطے اسماء مکرم اوپر گڑ کے پانچ بار پڑھ کر دم کرے اور کھلاوے درود
 جاتا رہے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ طَیِّبٌ طَافِعٌ قَاسِمٌ
 اِبْرَہِیْمٌ وِرْدُوں دَفْعٌ شُوْرٌ - دیگر :- جس کے شکم میں درد ہو سات مرتبہ
 سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پلاوے انشاء اللہ درد شکم دفع ہو جائے گا

۷۸۶

۳۷	۲۹	۴۷
۳۶	۳۳	۳۱
۳۰	۳۸	۳۲

مغرب اور آزمودہ ہے دیگر
 درد شکم کے دور ہونے کے لئے
 حسب شرط یہ تعویذ لکھے اور
 دھو کر مریض درد شکم کو پلاوے

انشاء اللہ درد شکم جاتا رہے گا نقش یہ ہے..... دیگر یہ تعویذ
 بھی درد شکم والوں کے حق میں اکسیر ہے جس کسی کو درد شکم کی تکلیف

ہو اس نقش مثلث کو بچے اور
دھو کر پلاوے انشا اللہ درو شکم
جائے گا بجزب و آرمودہ مو
ہے اور وہ نقش یہ ہے ... ←

۱۵	۲	ص
۲	۵۱۱	۵
ع	کن	ید

ویگرے کے پیش میں جس کسی
کو پیش یعنی آؤں یا خون اور
آؤں و دونوں آتا ہو وہ اس تعویذ
کو لکھ کر میں باندھے انشا اللہ
تعالیٰ صحت یاب ہوگا نقش یہ ہے

۷۸۶

۲۵	۳۹	۳۵	۳۹
۳۱	۳۸	۳	۳۳
۳۷	۳۶	۳۵	۲۹
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷

ویگرے۔ واسطے پیش اور خون
کے اس تعویذ کو بچے اور شربت
میں دھو کر اس شربت کو ہر ایض
کو دو۔ تین دفعہ روزانہ تین
روز تک پلاوے اللہ تبارک و تعالیٰ
شفادیکان نقش یہ ہے ... ←

۷۸۶

ا	ح	ص	د
ع	و	و	ط
ح	ی	۳۰	لا
ی	ح	د	لہ

ویگرے۔ درو کر کے واسطے سیاہ تاگے اور سات گزہ دیوے پھر ویگرے پر
پہر سورہ معوذتین اور آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور گھر میں باندھے
انشا اللہ درو کر جاتا ہے گا۔ ویگرے واسطے بوا سیر خونی اور ہادی کے
لکھے اور ناف کی طرف رکھے بعدہ ہمیشہ لپت کی طرف رکھے بقصر تعالیٰ

مزید

پاجید

۷۸۶

۱۲	۳۵	۳۸	۵
۳۷	۶۰	۱۱	۳۶
۷	۴۰	۳۳	۱۰
۳۲	۹	۸	۳۹

۲۷	۴۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۷	۲۳	۳۲

۸	۱۱	۱۲	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

نشانی ہوگی آزمودہ ہے اور وہ یہ ہے
 دیگرے۔ واسطے دروزہ
 اس تعویذ کو لکھ کر زین حامل
 کی بائیں ران میں بروقت
 ولادت باندھے ولادت
 النشا اللہ بہ آسانی ہوگی۔

دیگرے۔ اس نقش کو
 کو لکھ کر بروقت ولادت
 زین حاملہ کو پلاوے لگا۔

جلد پیدا ہو دروزہ سے
 فوراً ہی خلاصی پاوے۔

دیگرے۔ برادر و ناف کے
 جس کسی کی ناف میں درد
 ہو اس نقش کو لکھ کر
 ناف پر باندھے النشا اللہ
 درد فوراً جاتا رہے گا۔

دیگرے۔ جس کی ناف ٹل جائے تو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس کی
 ناف ملے النشا اللہ اپنی اصلی جگہ پر آجائے گی تجرب ہے۔ دیگر جس بورت
 حاصل کرنا شروع ہو یا آثار گرنے کا معلوم ہو تو چاہیے کہ نقش مندرجہ ص ۲۲

۲	ص
۵۱۱	۵
کن	ید

۳۹	۳۵
۳۳	۳
۲۹	۳۵
۱۱	۱۱

ص	د
د	ط
۳۰	لا
د	لہ

دیوس پھر دیگرے پر
 رگرمیں باندھے
 بنی اور ہادی کے
 بقضرتعالیٰ

وَدَّ عَدُوُّكَ بِكَ اِيك نقش زن حاکم
 کے کمر میں باندھے اور دوسرے نقش
 دھو کر شربت خواہ پانی میں پلا دے
 دو تین بار پلانے سے اسقاط ک
 جاویگا اور جنین میں طاقت آجیگی۔
 دیگر :- اگر کوئی مرد نامرد ہو گیا
 ہو تو لازم ہے کہ اس نقش کو لکھ کر
 ناف پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ
 جس عورت کے ساتھ صحبت کریگا

۳۲	۲۵	۲۶
۲۲	۲۵	۲۶
۲۷	۲۹	۳۵

نقش یہ ہے.....

و ۳۲ ح ح ح ح ح
۳۲ احد دا
ای ای ای اطا ا ۱۱ ۱۲ ۵

کامیاب ہوگا۔ نقش یہ ہے.....

دیگر :- جس عورت کو خونِ حیض کثرت سے یا قوت کے ساتھ بغیر تریب
 مدت سے گرتا ہو خواہ مہینے میں کئی بار آتا ہو اس تعویذ کو باندھے قوت
 کثرت اور بے قاعدگی جاتی رہے گی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَنَبِیْلِ الْقَلْبِ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ مِّنْ یَّتَقَلِّبْ عَلٰی عَقْبِیْهِ صَلَّى
 اللّٰهُ عَلَیْ خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ جَمِیْعِیْنَ ۵
 کا حیض بند ہو گیا ہو اور کھولنا چاہے تو اس شکل کو لکھ کر اس
 کی پائیں ران میں باندھے ۱۱ ۳ ۱۱ ۶ ۱۱ ۵

۱۱ ۳ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۳
 دیگر :- برائے درد شکم اور دلچ بونے خون جاری شدہ کے س

ایس برادر س
 نقش کو لکھ کر
 انشاء اللہ تعالیٰ
 میں گی۔ نقش
 دیگر :- واس
 کے اس تعویذ کو
 در گلے میں بجز
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا فِیْطَطْط
 دیگر :- واس
 کے اس فلیتہ کو
 لگا کر اس کا
 تمام جسم
 تعالیٰ بخار جا
 دیگر :- یہ
 صحت کیلئے
 چاہو۔ چلے
 تمام جسم
 واسطے بند ہو
 چار مرتبہ


مردیدہ

۵۲	۲	۷
۸	۷	۳
۹	۶	۲۲

نقش کو لکھ کر گھر میں باندھے
 انشاء اللہ تعالیٰ حکایات جاتی
 ہیں گی۔ نقش یہ ہے.....
 دیگر:- واسطے دفع ہونے بخار

کے اس تعویذ کو لکھ کر دونوں ہاتھ اور گلے میں باندھے۔ دائیں بائیں ہاتھوں
 اور گلے میں مجرب ہے اور وہ ہے.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا مُجِیْطُطْ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا مُجِیْطُطْ



دیگر:- واسطے دفع ہونے بخار
 کے اس فلیتہ کو لکھے اور اس کو
 سلگا کر اس کا دھواں مریض
 کے تمام جسم میں دیوے حکم خدا
 تعالیٰ بخار جاتا رہے گا وہ یہ ہے

دیگر:- یہ فلیتہ بھی ایسے مریض
 کی صحت کیلئے کافی ہے جس کو بخار
 آتا ہو۔ چلپئے لو بان قدرے کے ساتھ اس کو سلگا کر اس کا دھواں مریض

۲۹۲	۲۸۷	۲۹۵
۲۹۳	۲۹۱	۲۸۹
۲۸۸	۲۹۶	۲۹۰


کے تمام جسم میں دیوے۔ دیگر:-
 واسطے بند ہونے کے اس کو لکھ کر برابر
 دو چار مرتبہ دھو کر پاپو تے بند ہو جائیگی۔

۳۲
 ۲۲
 ۲۷
 ۱...
 ح ح
 دا
 ۵ ۱۲ ۱۱
 ساتھ بغیر تریب
 باندھے قلت
 من الرحمن
 عقیبہ
 دیگر:- جس
 شکل کو لکھ کر اس
 ۵۱
 لا
 شدہ کے

دیگر۔ جس کسی شخص کو
آتی ہو اور بندہ بہوتی ہو اس
کے لئے یہ نقش مجرب ہے لکھ کر
ریض کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ
تعالیٰ کے کامیاب رہو جائیگا۔

۹	ع	موند	۷
۱۵	ع	د	۱۵
۸	۱	لا	۱۶
۱۲	ع	۲	۱۲


دیگر۔ برائے دفع مرگی و پھری و سرخ بادہ از حکیم لقمان۔ خرگوش
کو ذبح کر کے اس طلسم کو اس کے خون سے لکھ کر ریض کو پنہا دے
انشاء اللہ عارضہ مذکورہ بالا دفع ہوگا۔



دیگر۔ یہ تعویذ واسطے
مرگی کے عجیب تاثیر ہے

لا

دیگر: واسطے دفع مرگی کے روز یکشنبہ
سفید مرغ کے خون سے لکھ کر مرگی دے
علی اللہ
کے گلے میں پنہا دے انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہو جائے گی اور وہ یہ ہے۔



دیگر: جس شخص کو بخار گرم زیادہ ہو تو چاہیے کہ تعویذ مندرجہ
صفحہ نمبر ۵ کو لکھے اور دو تین روز کھلا دے بخار بالکل جاتا رہے
کا مجرب الجرب ہے۔

ابن براء کس کراچی
محمد رسول اللہ
بسم اللہ
تعالیٰ
و لکھ کر اس کو
یومیہ خمیہ
الرحمن لینہ
موقوف کریگا
لہم و لکھ کر
دین براء کس
طوطط

اس تعویذ کو بیکر اس کے گلے میں باندھ دیوے۔ دانت بفضل آسانی سے
 نکل آئیں گے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
 اِلَّا اَنْتَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِیْمُ الْقَدِیْمُ الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ
 اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ الَّذِیْنَ بِنِعْمَتِكَ اللّٰهُ اِسْلَامًا
 بِحَمْدِكَ يَا الرَّاحِمِیْنَ وَیَكْرِ۔ اگر کسی عورت کے حمل توڑ رہتا ہو لیکن
 ضائع ہو جاتا تو اس تعویذ کو بیکر ایک کو گلے میں ڈالے اور دوسرا کھلا دے

انشاء اللہ تعالیٰ حمل برقرار رہے گا اور وہ تعویذ یہ ہے۔۔۔

الغی بجی منت عبد الرشید الصید

۱۱۳۳	۱۱۳۳	۱۱۳۳
۱	۲	۳
۴	۵	۶
۷	۸	۹
۱۰	۱۱	۱۲
۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱
۲۲	۲۳	۲۴
۲۵	۲۶	۲۷
۲۸	۲۹	۳۰
۳۱	۳۲	۳۳
۳۴	۳۵	۳۶
۳۷	۳۸	۳۹
۴۰	۴۱	۴۲
۴۳	۴۴	۴۵
۴۶	۴۷	۴۸
۴۹	۵۰	۵۱
۵۲	۵۳	۵۴
۵۵	۵۶	۵۷
۵۸	۵۹	۶۰
۶۱	۶۲	۶۳
۶۴	۶۵	۶۶
۶۷	۶۸	۶۹
۷۰	۷۱	۷۲
۷۳	۷۴	۷۵
۷۶	۷۷	۷۸
۷۹	۸۰	۸۱
۸۲	۸۳	۸۴
۸۵	۸۶	۸۷
۸۸	۸۹	۹۰
۹۱	۹۲	۹۳
۹۴	۹۵	۹۶
۹۷	۹۸	۹۹
۱۰۰		

الغی بجی منت عبد الرشید الصید

دیگر۔ جس عورت کو حمل نہ رہتا ہو اس تعویذ کو بیکر بازو پر باندھے
 اور اس کا شوہر بہتر ہو پھر انشاء اللہ تعالیٰ حاملہ ہو الھی بحق سلیمان
 بن داؤد علیہ السلام بحق تمودہ ہذا عالم حمل قرار فرماید
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہو ہو ہو ہو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ
 اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ
 قیوم قیوم قیوم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمدًا وآلہٖ اجمعین

دیگر جب لڑکا بہت روئے اس آیت کو لکھ کر باندھے وَكَذَلِكَ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَكَأَيُّ زِينَةٍ
النَّاطِقِينَ إِلاَّ حَسْبًا لَّكَ . دیگر۔ اگر کوئی بھاگ گیا ہو اس تعویذ
کو لکھ کر پھل دار درخت میں لٹکاوے مفور واپس آویگا۔ وہ یہ ہے۔

ک ۲ ص ۸۱۰ ل ۲۱ ص ۱۸۱۲ ص ۱۸۱۲

فلاں بن فلاں سرگرمیوں سے زود بیاہنے سے ڈرنا

دیگر۔ واسطے بھاگے ہوئے کے اس تعویذ کو لکھ کر پتھر کے نیچے رکھ کر
اوپر بجاری پتھر سے دبا دیوے تاکہ تعویذ خوب دبا رہے انشاء اللہ تعالیٰ
بھاگا ہو بہت جلد واپس آئے اور وہ یہ ہے۔

۲۲	۲۱
۲۳	۲۶
	۲۱۰
۲۴	۲۸
۲۹	۲۸

دیگر۔ جس عورت کے
لڑکا نہ ہوتا ہو اور حمل
نہ ٹھہرتا ہو چاہے کہ بہرہ
دار کاغذ پر پہلے دو رکعت
بعد عشاء کے پڑھے

اول رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے آیتہ الکرسی اور رکعت دوم میں بعد
سورۃ فاتحہ کے اِذَا جَاءَ جِبْ نَمَانِیْ سَ فَا رَغَّ هُوَ شَ مَرْتَبَہٗ دَرُودِ شَرِیْفِہٖ
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کر اس نقش کو لکھے خشک و زعفران
سے لکھنا ہوگا بعد اس کے پاک پانی سے دھو کر تھوڑا مشوہر پی لے
اور باقی زوجہ کو پلاوے اور وہ دونوں بہ بستر میں بہ فرمان خدا تعالیٰ

امین برادر کراچی
اسی شب
اس کو حضرت
لے ان کو بلاوا
کے اگر شک
جمش
ہو ہو
عورت
اس کو لازم
کر عورت کے
سب وجہ
پس خدا
مس
و
او ہو
آہ آہ

فَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَيَاةُ اللَّهِ الْعَظِيمَةَ - دیگر برائے دفع سحر اور جادو وغیرہ کے پہلے تھوڑی سی خاک جامع مسجد جہاں کہ شرعی اصول کو فاصلہ کا لحاظ مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی جاتی ہو حاصل کرے اس کے بعد پانچ دیگر مسجدوں سے تھوڑی تھوڑی سی خاک حاصل کرے اور سب خاکوں کو باہم ملا کر مسحور کے تمام بدن میں ملے اور جو

خاک اس کے جسم سے گرے دریا میں ڈال دیوے انشاء اللہ مسحور کو شفا ہوگی۔ دیگر برائے دفع سحر و جادو کے اس نقش کو لکھ کر مسحور کے گلے میں ڈالے اور سات روز بہار منفسات روز اس نقش کو شربت نبات میں دھو کر پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ

مریض صحت پائے۔ دیگر برائے دفع سحر و جادو کے اس نقش کو مشک زعفران سے لکھ کر مسحور کے گلے میں ڈالے بفضلہ تعالیٰ سحر دفع ہو اور

۸	۲۵۹۴	۲۵۹۶	۱
۲۵۹۶	۲	۶	۲۵۹۵
۳	۲۵۹۹	۲۵۹۲	۶
۲۵۹۳	۵	۴	۲۵۹۸

اس کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جس کے پاس یہ نقش رہے گا اس پر کسی کا سحر اثر نہ کرے گا۔ مجرب اور آزمودہ ہے دیگر یہ تعویذ

امین برادر س کراچی
 واسطیہ
 یہ تعویذ
 اور تین تو
 نماز صبح
 جائے نماز
 میں آیا
 شکر گنج
 ہوتے
 زچہ خا
 لاحق ہ
 چاہئے
 بچے کے
 تین
 کتاب
 اس عا
 عمل
 مسلمان

۱	۹	۱	یا واحد
۸	۵	۶	یا علی
۶	۱۱	۲	
۳	۵	۳	یا محمد بسم اللہ

داسطے پیش کے مجرب ہے
یہ تعویذ بیمار کی کمر میں باندھے
اور تین تعویذ تین دن تک بعد
نماز صبح پلاوے۔ بیمار اچھا ہو
جائے۔ اکثر بیماریوں کی آزمائش

میں آیلے نہایت مجرب ہے اچھا ہو جانے کے بعد فاتحہ حضرت فرید الدین
شکر گنج کی شیرینی پر دلا کر لڑکوں کو کھلا دے۔ دیگر برے دُفع
ہونے جموگا کے کہ یہ مرض مخصوص

لا	۲	د	ل	اللہ
ہجر	الہ	سُو	م	ر
مت	ر	لا	رسول	و
محمد	صحیح	ہا	اللہ	ہرج



زچہ خانہ ہی سے طفل صغیر کو
لاحق ہوتا ہے بہت مجرب ہے
چاہئے کہ یہ نقش لکھ کر یا تو
بچے کے گلے میں باندھا یا پلاوے۔

مقصد پنجم حصہ دوم عملیات سفلی

تینہرہ پر عملیات سفلی جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے موقوف
کتاب ہدا کی مکمل نقل ہے عبارت میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے
اس عمل میں غیر اللہ سے رجوع کیا گیا ہے جو ایک مسلمان کو اس طریقہ
عمل سے ہٹانا کرتے ہوئے منزل کفر میں داخل کر دیتا ہے لہذا میری تمام
مسلمانوں سے پرزور استدعا ہے کہ وہ عملیات سفلی کو نظر انداز کر

دیں ورنہ انہیں خدا تو نہ ملے گا البتہ ابلیس کی ہمیشہی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان نہ مانا تو وہ خود مردار ہو گا۔ تاثر

عمل شیخ سَدُو | یہ عمل شیخ سَدُو کے قبضہ میں لانے کا ہے
شیخ سَدُو اور وراح حبیشہ میں سے ایک

روح بد ہے جسکی موت حرام طریقہ پر واقع ہوئی ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ اکیس روز تک اکیس بار ہر روز رات کے وقت تخلیہ میں پڑھا کرے اور پانچ گول گولہ اور پھوڑی شراب اپنے آگے رکھ لیوے اور پڑھا کر بعد تمام ہو جانے کے دریا برد کرے۔ منتر یہ ہے
شیخ  آشیہ کے لاڈلے مدد کے فوجدار ہاتھ کھٹ کا مکر
زنجیر جھومتا آدے شیخ  پیر۔

عمل بابا برہنہ | یہ بھی ایک روح بد ہے ترکیب اس کو
قبضہ میں کرنے کی یہ ہے کہ ذیل کا منتر

تین سو ساٹھ بار روزانہ بلاناغہ تخلیہ میں چالیس روز تک پڑھے
نوجندی جمعرات کو شروع کرے اور توشہ بنا کر روز پڑھا کرے
منتر۔ شاہ برہنہ املی کا لاڈنا لومن کا توشہ کھائے۔ اسی
کوس کا دھاوا لگائے۔ جھومتا آدے پیر شاہ برہنہ پیر۔ لیکن
یہ یاد رہے کہ لومن کے توشہ کا وہ آپسے جب بھی آوے گا۔
طالب ہو گا اس میں آپسکی نہیں کر سکتے۔ اگر کمی کریں گے یا
نہ دیں گے تو خوف جان کے جانے کا ہے لہذا یہ آپسے جانیں۔

عمل

میں غسل

وقت صر

میر سے گی

جل باندم

کروں کالا

نہیں۔ و

ہوئے ہیں

ان منتر و

جو شرک ک

اگر معشوق

ایک بار

کھلاوے

فلائے کو

سوتی ہو

متر ضا

پہلی

مطل

مقصد سہم نسخہ جات حب اساک میں

نسخہ جات حب۔ واسطے حب و شیفہ کر کے محبوب کے اگر سہدی کو روغن گاؤ
میں جس وقت چاند گہن میں ہو ملا کر رکھ لیوے اور جب ضرورت ہو ماتھے پر لگا کر
جس عورت کے سامنے جلاوے وہ دیکھ کر عاشق ہو کر دیوانہ وار لپٹ جاوے۔
دیگر۔ اگر دستورے کے عوق میں بیخ اگا رہ کو صلابہ کے ماتھے پر لگا میں جس
زہرہ جبین کے سامنے جائیں اس کو اپنا عاشق بنا لیں۔ دیگر۔ اگر پڑتیل
کے ساکتہ ذرا سا بندر کا بیٹ ملا کر عورت کے بالوں پر ڈالی جاوے فوراً عاشق
ہو جاوے۔ دیگر۔ اگر سفید گھونگی کی جڑ باریک پیسکر اپنی منی میں ملا کر جس عورت
کو چاہے کھلاوے اپنا دیوانہ و شیدا بنائے۔ دیگر۔ سہاگہ و بڑی قسم روغن
کا پتھوں صلابہ کر کے اپنی منی میں ملائے بقدر مٹ گویاں بنائے اور جس عورت
کو ایک گولی کھلاوے دل و جان سے اپنا عاشق پاوے۔ دیگر۔ کبوتر
کا بیٹ اور سوندھالون و شہد باریک پیس کر قضب پر لگا کر جس عورت
کے پاس جائیں وہ عمر بھر عاشق رہے گی پھر کسی مرد کا خیال نہ کرے گی۔
دیگر۔ سنگ مقناطیس ذرا سا اپنی منی اور صندل میں پیس کر عورت
کے جسم پر ملیں مرد کی مفتون ہو جاوے گی۔ دیگر۔ شہد میں سہدای کو
ملا کر گویاں تیار کریں جس کو پان میں ایک گولی کھلا میں وہی عاشق ذرا
ہو جائے۔ دیگر۔ جب چاند برج عطارد کے نزدیک ہو تو اس کے نزدیک

اور دل اپنے لعابِ منی میں ملا کر معشوق کو کھلا دے تو محبت اور وحدت ہوگی
فصل دوم - بیان لذتِ مباشرتِ امساکِ قوتِ باہمی
دیگر - پنچال اور پیہ اور بیضہ کبوتر اور نمک سنگ اور شہد ہموزن لے
کر سب اجزاء کو باہم مخلوط کر کے جسم پر طلا کرے ایسی لذت حاصل ہو دے
کہ از خود رفتہ ہو جائے۔ دیگر - کبابِ عینی - دارِ عینی - شہد و سندھی
مسادی الوزن کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر قضیب پر ملیں لذت بہت
پاویں۔ دیگر - عاقرقرا اور مرویج کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر ایک
ساعت قبل تھا خاص پر ملیں اور بعد میں عاقد مذکور کے کپڑے سے پاک
کر کے مجامعت میں مشغول ہوں۔ دونوں مہلت لذت پاویں بلکہ کثرت
تا زندگی فریفتہ اس مرد کی رہے۔ دیگر - کافور اصلی اگر سوراخ جسم میں رکھل
جما کرے بہت لذت پاوے دیگر - ایک حصہ سہاگہ چھوڑ کر شہد میں پس
کر سور کے برابر گولیاں بنا میں اور سوزک کا چھوڑ کر قضیب پر لگائیں دو ہی مرتبہ
میں فرق تالی منزل ہو اور لذت کثیر حاصل ہو۔ دیگر - اگر گونگھی کے
پتوں کو باریک پس کر تھوڑا ساڑھے تین ماشہ کے گولی بنا میں اور وقت
 حاجت کے ایک گولی کھائیں دونوں ساتھ آئیں۔ دیگر - سورن سہاگہ
کانور اور گائے گاگھی سب برابر پیل کے پانچ دانے سب کو باریک

کر کے قضیب پر لگائیں فریق ثانی کو قریفہ بنائیں۔ ویگر۔ سات ماہ
 دا چینی منہ میں چبا کر اس کا لعاب عضو مخصوص پر لگائیں اور مشغول
 ہوں لذت بے انتہا حاصل ہوگی۔ ویگر مجامعت کے وقت سفید مرغ
 لے خون میں شہد ڈال کر پکائیں اور قضیب پر لگائیں بے انتہا قوت
 آئے گی اور اتنی لذت آئیگی کہ پھر دوسری طرف کسی غیر سے رغبت نہ ہوگی
 ویگر۔ مجامعت کے وقت چنبیلی کے تیل میں کالے کوئے کے پتے کو حل
 کر کے ذکر پر تلا کریں پھر بہتر ہوں کہ فریق ثانی کی تسکین لذت کے باعث
 ہوں گے۔

امساک میں :- کو پخ کے ٹکڑے انگل انگل برابر تراش کر بوقت
 دخول ایک منہ میں لے کر چوستے رہیں جب تک منہ میں رکھیں گے منزل
 نہ ہوں گے۔ ویگر۔ برائے امساک گائے کے دودھ میں ہمراہ ایک تولہ
 دو ماہ سیاہ زیرہ نوش کریں پھر مشغول ہوں جب تک زمین پر پاؤں
 نہ رکھیں گے منزل نہ ہوں گے۔ ویگر۔ آگ کا دودھ آدم سیرا کر زمین
 میں سات روز تک دبا رکھیں پھر مجامعت کے وقت ہتھیلیوں اور نلوں
 پر لگائیں جب تک ہاتھ پاؤں نہ دھوئیں گے انزال نہ ہوگا۔ ویگر۔ کرلیہ
 کے پتوں کو کوٹ کر عرق نکال کر رات بھر کسی برتن میں رکھیں کہ صبح تک جم
 جائے پھر فجر کو برواشت مزاج کے موافق گولیاں تیار کریں اور جب کھانا
 پیئم ہو جائے شہد کے ساتھ ایک گولی کھا کر مشغول ہوں امساک کے
 واسطے نہایت مفید ہے۔ ویگر۔ سفد آگ کر کے پتوں کے پتوں کے

لدھے کی چربی کے اندر جلا میں جب تک چراغ روشن رہے گا منزل نہ
ہوگا۔ ویگر۔ چھوٹی مچھلی کو ساڑھے ماشہ پارہ کھلائیں تو دو سو کروڑ
گولی نکل آویگی اگر بوقت مجامعت اس کو منہ میں رکھیں گے اساک
خوب ہوگا۔ ویگر۔ پیر ہوٹی اور کبالی دونوں کو باہم پیس کر اور کپڑے
پس پیٹ کر فلیتہ بناوے اور چوب انار سے چراغ دان بنا کر اپنی...
چار پائی کے پاس وقت مجامعت کے روغن گاؤ سے روشن کرے
جب تک چراغ مذکور روشن رہے گا انزال نہ ہوگا۔ ویگر۔ لاوے
ایک بال دم اسپکے اور ایک دم دراز گوشس سے ایک خصیہ شیر
کے تئیں سوراخ کر کے ان بالوں کو پہناوے اور اپنے بازوے راست
پہرماندھے اساک بہت ہوگا۔ ویگر۔ اگر موش کے خسیوں کو چڑنے
میں تحوید کر کے مکر میں باندھے ہرگز انزال نہ ہووے جس وقت شکم کی
طرف پھیر لیوے فوراً منزل ہو جاوے مجرب اور آزمودہ ہے۔ ویگر۔
اسپند سوختنی اور قرفل ہر ایک شروم اور شکر تو دم ملا کر بعد نماز
عصر کے کھاوے اور شام کو مجامعت کرے اساک بحد ہوگا۔ ویگر۔
اگر کنجشک نر خانگی بروز یکشنبہ لاوے اور شکم صاف کر کے قد سے اذیوں
اور قرفل و جاوتری و مشک بھر کر گل حکمت کر کے آگ میں پکاوے
بعد اس کے نکال کر گھی میں بھون کر گولی بناوے وقت ضرورت پھیر لیوے
گولی مذکورہ کو کھاوے اساک بہت ہوگا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

یہ ایک پردار کیرا ہے بھونرے کے مثل ہوتا ہے اور اسکی
پشت پر چھ سنہری بندریاں ہوتی ہیں یہ جس کو کاٹا ہوتا ہے

چھ بندا

اگر نامرد اور زاد ہو یا سوسا سو برس کا ضعیف ہو تو فی الفور باہر
اور پھر مدت العمر نہیں جاتی اور ساتھ ہی اس کے تمام جسم کے روئیں بھی
ہو جاتے ہیں۔ ایک گڑھا بہت چوڑا کھود کے چاروں طرف کندھے سلگا دیتے
جائیں اور گڑھے کے اندر وہ شخص بیٹھ جائے جسے چھ بنائے کا ٹاٹا ہو۔
جب گرمی معلوم ہو تو باہر نکلے صرف باہر نہیں جاتی بلکہ استادگی بدستور
رہتی ہے اور باقی شکایتیں بھی جاتی رہتی ہیں۔

یہ کیرا مکھی کے برابر ہوتا ہے اور کٹی ہوئی لکڑی
جو ڈال دی جاتی ہے اس میں سے نکلتا ہے پانچ

ڈھاکا کیرا

عدو نے کر مغز بادام شیریں میں حل کر کے ۲۱ گولیاں بنائے ایک گولی...
علی الصباح ہر شیر گاڈ استعمال کرنے سے باہر ۳۱ قدر ہوتی ہے کتاب
نہیں ہو سکتی اور جو ضعیف ہمیشہ کیلئے مایوس ہو گیا ہو اس کے لئے
تیر بہد ہے۔

شہور بے مٹی کے ایک بڑے ڈھیلے کے اندر...
رہتا ہے تیل اس کا بہت آسانی سے نکل آتا ہے

دیہک بادشاہ

کیوں کہ وہ خود مجسم تیل ہے اس کو روغن مالکنگنی میں حل کرنے سے
اور مالش کرنے سے وجع مفاصل اور ہر قسم کا درد بالکل جاتا رہتا ہے
صحیح وزن ایک حصہ روغن بادشاہ دیہک اور چار حصے روغن مالکنگنی

اگر مالکنگنی کا تیل ملنا دشوار ہو تو بہ مجبوری روغن تلخ کام میں لایا جاسکتا ہے۔

دکن کا اوشلو | اوشلو دراصل ایٹراٹو ہے صرف ممالک دکن میں پایا جاتا ہے اس کی قطع گرگٹ سے بہت مشابہ

ہوتی ہے اور سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے گوشت کا کاشکرا لے کر کسی شخص کو کھلا دیا جاوے تو وہ ہر روز گھلتا جاتا ہے اور امر اسینہ و پٹو مثل مذقوق کے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی ہضم نہیں ہوتا لہذا اس کا حکم انسانی سے خارج ہونا بہتر ہے چنانچہ اس کو نکالنے کے واسطے ایک پتی ہوتی ہے جس کو بکری نہیں کھاتی اس کو دودھ میں پیس کر پلانے سے تے ہو جاتی ہے اور وہ تے کے ساتھ نکل آتا ہے اکثر فاحشہ عورتیں اپنے شوہروں کو کھلا دیتی ہیں۔

بلخند

نہیر کے

ذوق کی جملہ کتابیں مکتبہ امین برادران

میں ہر وقت بہتر اور مناسب قیمت پر موجود ملیں گی۔

منیجرا

اکسیر الحلیات

مرتبہ سید رضی حسین جوپوری

ہدیہ = ۲۵/-

عناوہ اخراجات ڈاک

یہ عملیات کی وہ نادر دنیا ب کتاب ہے جو ہنوز اپنا تانی رکھتی ایک مبتدی کے لئے مکمل طور پر رہبری کا فرض ادا کرتی ہے اس لئے کہ اس کتاب میں مولف نے عملیات کی ابتدائی منزلوں مثلاً حروف تہجی اور اس کے ابدالوں - دائرۃ البروج و نجوم - اسما ستیاریاں اور ان کے خواص - نقوش کے پیکر کرنے کے طریقے - حصار - زکوة کی ادائیگی اور ایسی ہی بہت سی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انتہائی ضروری ہیں۔

تسخیر الحلیات

مرتبہ سید رضی حسین جوپوری

ہدیہ = ۱۵/-

عناوہ اخراجات ڈاک

کتاب مندرجہ ہذا پہلی کتاب اکسیر الحلیات کی دوسری کڑی ہے جو بہترین تیر مہدف عملیات سے مزین اور گرانقدر و سیریح التاثر مستند نقوش سے مرتب ہو کر ضرورت مند حضرات کو برابر فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آپ کی کوئی ایسی جانت جسکا علاج روحانی اور معقول تدارک اس کتاب میں نہ ہو۔ اس کتاب کی موجودگی میں آپ کو کسی عامل کے پاس جانینی ضرورت نہیں

اسرارِ حلیٰ

ترجمہ سید رضی حسین جوینپوری

۱۵/۱

علاوہ انرا جادوگ

علیاتی دنیا کی یہ اسرار و رموز
سے مزین کتاب اپنی گونا گوں
خوبیوں کی بدولت جس قدر جلد
شہرت پذیر ہوئی ہے اتنی سرعت
کسی دوسری کتاب کو اب تک حاصل
نہیں ہو سکی اس کتاب میں آپ کو
ہر اقسام کے روحانی علاج ملیں
گے۔ اس لئے یہ کہنا ہے جاہ ہوگا
کہ اس کتاب کی موجودگی میں آپ کو
کسی عامل کی خوشامد نہ کرنی
پڑے گی بسکائیے اور ملاحظہ فرمائے

اعجازِ حلیٰ

ترجمہ سید رضی حسین جوینپوری

۱۵/۱

علاوہ انرا جادوگ

واقعی یہ کتاب اعجاز سے بھر پور ہے
جس سے ضرورت لے اس سے
مدد لی وہ اپنے مقصد میں یقیناً
کامیاب ہوا۔ یہ کتاب ان نادور
اور نایاب دعاؤں کی کجائی طور پر
مملو ہے جن سے لوگ تقریباً نئی
روش اختیار کرنے کی بدولت نادان
ہو چکے ہیں ہمارا مشورہ ہے کہ آپ
ان بیش بہا حزمیکل سے اپنی
مشکلوں کو آسان فرمائیں جو ان
کتاب کی مخصوص ازینت ہیں۔

لشیر کزاد

مولفہ۔ رضی پوری

ہدیر ۸ روپے

علاوہ خرچ ڈاک

یہ وہی کتاب ہے جس کی عدم موجودگی میں لا انتہا اڈورسٹیج موصول ہو اور جو اب بعد طباعت ہاتھوں ہاتھ اپنے شائقین کے پاس پہنچ رہی ہے اگر اپنے غفلت برتی تو پھر دوسرا پبلیشر کا آپ کو یقیناً انتظار کرنا پڑیگا۔ ہمزاد کے معلوماد عملیہ کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ اس مختصر کتاب سے بہتر مواد آپ کو ایسے واضح الفاظ میں کسی دوسری کتاب سے ملے گا اس ضمن میں کتاب آپکی پوری پوری رہبری کرے گی۔

لشیر جنات

مولفہ جنابے لوی سید علی صاحب بلگرامی

ہدیر ۱۰ روپے

علاوہ خرچ ڈاک

کتاب مندرجہ ہذا کے لئے یہ عنوان کوئی بازاری اشتہار نہیں ہے کہ جس میں الفاظ کو عوسی جامہ تو پہنا دیا گیا لیکن قسدا کچھ بھی نہیں۔ کتاب بھی حاضر ہے مکتبہ بھی موجود کتاب سنگلیئے، لکھی ہوئی عامل کی۔ ہدایا پر عمل سچے دل سے کیجئے اگر بھی آپ اجنبہ کو قابو میں نہ کر سکتے تو ہمارا ذمہ یہ ہیں عامل کے وہ الفاظ جن کو ہم سپرد قلم کر گئیں۔ اور اگر آپ کو اب بھی تذبذب ہو تو اسکا کوئی علاج نہیں۔

پتہ:- بین برادر سمانہ انڈیا جرن کتب

P.B. 145۔ آرام باغ روڈ۔ کراچی ۱

پتہ:- امین بکوریس ناشران قبا جرن

P.B. 145۔ آرام باغ روڈ۔ کراچی ۱

عملیاتی

ہدیہ = ۱۲ علاوہ خرچہ ٹیک

اس کتاب کا نام اپنے دو صاف بے پایاں کا خود اظہار کر رہا ہے آپ کے ہر مشکل امر میں کام آنے والی یہ کتاب دن بدن اپنی انہیں خوبیوں کی بدولت مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے سرجے تاثیر و ثبوت اور زور و اثر لفظوں سے آپ اپنے ہر مطلب جاریہ کو نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ صحیح طور پر اس میں مندرج ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گامزن ہوں تو اس وقت آپ کو ہمارے صداقت آمیز الفاظ باورزن معلوم ہوں گے۔

ترویج سکھ

ہدیہ = ۸ علاوہ خرچہ ٹیک

عملیاتی دنیا کی یہ مختصر مگر نادر اور نایاب کتاب کا نقش سکھانی کے بعد شہرت میں دو سر المنبہ ہے جب سے شاک ہو کر حوام کو فائدہ پہنچنا رہی ہے مقبولیت اور منگ برابر بڑھتی جا رہی ہے اس مختصر سی کتاب میں کوئی دنیاوی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو سوائے کتابت کے نظر انداز کیا ہو اور یہی سب سے بڑی خوبی اس کتاب میں پنہاں ہے لہذا آپ بھی اس کتاب کو حاصل کر کے اپنے عملیاتی مہلتہ کی زینت میں اضافہ کیجئے۔

پتہ:۔۔ امین برادر س ناشران کتب۔ P.O. آرام باغ روڈ۔ کراچی۔ ۱۴۵

ترجمہ

عملیاتِ حیات

ہدیہ صرف = ۸/۰
ملاوہ نرخ ڈاک

یہ مضمون باسوی کتاب حقیقتاً
خیرت خود حقیقت کا پتھر ہے
نئے نئے نقوش اور سہل اصول
وظائف جن پر عمل کرے سے حقیقت
کے سونے چھوٹے لگتے ہیں اس
کتاب کے خاص جو بہرات میں
ہیں۔ حقیقت کے ماروں کے حق
میں یہ کتاب اکیسیر کا دلچسپ
ہے لہذا انکا ملنا حقیقت کو سمیٹنے
کراس کتاب سے مدد ملے گا ہے
ترجمہ میں کامیابی حاصل کریں اور
اپنی زندگی کو شاندار بنا لیں۔

ایم بی اے کراچی

کنز الحسین

۲۵/۰

ترجمہ کنز الحسین فاخری از غلام حسین
ہدیہ تین روپے بھرتی سے ملاوہ نرخ ڈاک
یہ کتاب محتاج تعارف نہیں کافی
موضوع سے شہرت یافتہ ہے اس کتاب
کے چند پہلے تراجم صحت مندانہ طریق
پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دل سے
قائدہ انکھایا لیکر اب غنما ہو چکے
ہیں بوجہ چند تراجم پر سنانے آئے
لیکن وہ اغلاط سے بھر پور چنانچہ
جنے بھی جھٹکا کر کے ترجمہ کر لیا جھٹکا
کہ حتی الامکان ہمارا ترجمہ اغلاط
سے پاک تھا ہو کر مکمل طور پر بری
کرتا ہے لہذا اس ترجمہ کو حاصل کر کے
آپ بھی استفادہ کریں۔

پتھر - ایم بی اے کراچی
P. B. آرام بڈ روڈ - کراچی - ۱